

جَبَّ عَلَى الصَّلَاةِ



محمد نجيب سنبھلی قاسمی

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

Third Addition

"Hayya Alasslah"

By Mohammad Najeeb Sambhal Qasmi

نام کتاب:	حی الصلوٰۃ
مصنف:	محمد مجیب سنبھلی تاںی
کمپیوٹر کپو زنگ و ڈزاین انگل:	محمد مجیب سنبھلی تاںی / محمد سعد نعیانی
پبلیکیشن:	دسمبر ۲۰۰۵ء
دورہ الیٹیشن:	جون ۲۰۰۷ء
تیرہ الیٹیشن:	ستمبر ۲۰۱۱ء

چند حضرات کے تعاون سے کتاب کا تیرہ الیٹیشن حاجی کرام کو مفت تقسیم کرنے کے لئے شائع کیا جا رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ ان محسینین کے تعاون کو تقدیم فرمائیں اور اجر عظیم حطا فرمائیں۔

Publisher

فریڈم فائٹر مولانا اسمائیل سنبھلی دل تحریر سوسائٹی، دیپا سارائے، سنبھل، مراد آباد، یونی

Freedom Fighter Molana Ismail Sambhal Welfare Society
Deepa Sarai, Sambhal, Moradabad, U.P. Pin Code: 244302

عاز میں حج کے لئے مفت ملنے کا پتہ:

ڈاکٹر محمد مجیب، دیپا سارائے، سنبھل، مراد آباد، یونی، فون نمبر: 05923 231678

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَالَ اللَّهُ إِنَّمَا مَعَكُمْ
لَئِنْ أَفْهَمْتُمُ الصَّلَاةَ.....

اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں،

اگر تم نماز قائم رکھو گے سورہ المائدہ ۱۲

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جَعَلْتُ فُرْخَةً عَيْنِي فِي
الصَّلَاةِ
(النسائی البیہقی والحاکم وأحمد)

حضرت اکرم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا:-
میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔

جَبِ عَلَى الصَّلَاةِ

جَبِ عَلَى الْفَلَاحِ

آؤ نماز کی طرف

آؤ کامیابی کی طرف

(یعنی نماز کا اہتمام کر کے دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کرو)

فہرست عنوانیں

نمبر شار	عنوان	صفحہ
۱	پیش لفظ	۷
۲	تعارف	۹
۳	نماز کی فرضیت	۱۱
۴	نماز کی اہمیت	۱۶
۵	قرآن و حدیث میں فجر اور عصر نمازوں کی خصوصی تاکید	۲۷
۶	نمازوں جو کسی باجماعت ادا نہیں میں معاون چند امور	۳۲
۷	نماز کی فضیلت	۳۵
۸	فرض نماز جماعت کے ساتھ	۳۱
۹	تاخیر سے مسجد پہنچنے پر اجزہ عظیم سے محرومی	۳۸
۱۰	مسجد کی آبادی	۵۸
۱۱	خشوع و خصوع والی نماز	۶۳
۱۲	نماز میں خشوع و خصوع پیدا کرنے کا طریقہ	۷۰
۱۳	قرآن کریم میں مؤمنین کی صفات اور نماز	۷۳
۱۴	نماز اور انبیاءؐ کرام قرآن میں	۷۸
۱۵	حضور اکرم ﷺ اور صحابہؐ کرام کا نماز سے شغف اور تعلق	۸۳
۱۶	بے نمازی اور نماز میں سُتیٰ کرنے والے کا شرعی حکم	۹۱

۱۰۱	سنن و نوافل	۱۷
۱۱۰	نماز و تر	۱۸
۱۱۲	نماز تجد	۱۹
۱۱۶	نماز اشراق و چاشت	۲۰
۱۲۱	مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل (اوایین)	۲۱
۱۲۲	تحییۃ الوضو اور تحییۃ المسجد	۲۲
۱۲۳	نمازو جمعہ	۲۳
۱۳۰	نمازو تراویح	۲۴
۱۳۲	نمازو عیدین	۲۵
۱۳۳	نمازو حاجت	۲۶
۱۳۵	نمازو قبیح	۲۷
۱۳۷	نمازو استخارہ	۲۸
۱۳۹	نمازو توبہ	۲۹
۱۴۰	نمازو استقاء	۳۰
۱۴۱	سورج یا چاند گرہن کی نماز	۳۱
۱۴۳	نمازو جنازہ	۳۲
۱۴۵	اوقاتِ مکروہ	۳۳
۱۴۶	نمازی کے آگے سے گزرنے کی سزا	۳۴
۱۴۷	بعض شبہات کا ازالہ	۳۵
۱۵۱	چند ہدایات	۳۶
۱۵۶	اذان، وضو اور مسواک کے فضائل کا مختصر بیان	۳۷
۱۵۸	تمکملہ (وضو، شسل اور نماز کے مختلف ضروری مسائل اور طریقہ نماز)	۳۸
۱۶۶	مصادر و مراجع	۳۹

پیش لفظ

نماز ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے جسکی ادائیگی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے..... نماز اللہ جل شانہ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے..... نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات ہوتی ہے..... نماز ایسا اہم تم باشان عمل اور عظیم عبادت ہے کہ اسکی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر مسراج کی رات ہوا۔ نیز اسکا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ نبی اکرم ﷺ تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب ﷺ کو عطا فرمایا۔

نماز ہی کو اسلام اور کفر کے درمیان حدِ فاصل (فرق کرنے والی چیز) قرار دیا گیا..... نماز میں غفلت اور سُتیٰ کرنے کو منافقین کا عمل بتایا گیا..... نماز ضائع کرنے والے کو جہنم کی وادی: غی میں ڈالا جائیگا جہاں خون اور پیپ بہتا ہے..... نماز میں سُتیٰ اور کاملی کرنے والے کے لئے ہلاکت اور جہاں ہی ہے..... نماز کا اہتمام نہ کرنے والے کا حشر فرعون، قارون، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا..... اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے..... جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے.....

لیکن اپنی افسوس اور غلکر کی بات ہے کہ مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد اس اہم فریضہ سے بے پرواہ ہے۔ کچھ تو ان میں سے بالکل ہی نمازوں نہیں پڑھتے، کچھ جمع اور عیدین پر ہی اتنا کرتے ہیں اور کچھ نماز میں کوتاہی اور سُتیٰ کرتے ہیں یعنی جب جی چہا پڑھ لی جب جی چہا نہ پڑھی۔ جو طبقہ نماز پڑھتا بھی ہے وہ عموماً جماعت کا اہتمام نہیں کرتا نیز خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا حالانکہ اصل نماز وہی ہے جو اوقات کی پابندی کر کے خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کی جائے۔

مؤمنین کی نماز کے تعلق سے اس صورتی حال نے مجھے اس پر آمادہ کیا کہ میں نماز کی اہمیت و فضیلت کے متعلق ایک کتاب تحریر کروں۔ ویسے تو نماز کے متعلق بے شمار کتابیں موجود ہیں، لیکن

میرا بندیوی مقصد قرآن و حدیث کی روشنی میں اہمیت نماز کو بیان کرنا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے نماز کی اہمیت واضح ہو جائے اور ان میں نماز پڑھنے کی رغبت پیدا ہو جائے، نیز نماز کو خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں۔

چنانچہ نماز کے مسائل کو نہ بیان کر کے صرف نماز کی اہمیت و فضیلت سے متعلق تقریباً ۵۷ آیات اور ۲۲۵ احادیث صحیحہ کو مختلف ابواب کے تحت اس کتاب میں ذکر کیا ہے تاکہ تاریک نماز اور نماز میں غفلت کرنے والا اپنے انعام بد پر غور و غفر کر کے بیدار ہو، اور سچے دل سے توبہ کر کے نماز کا پابند بن جائے اور نماز کی پابندی کرنے والا شخص حقیقی نماز کو پیچان کر، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے والا بن جائے۔ اگر امت مسلمہ کا برا طبقہ واقعی نماز کی پابندی کرنے گے تو قرآن کا اعلان ہے کہ انفرادی اور اجتماعی ساری برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔

سنن و نوافل کو بھی الگ الگ ابواب میں تفصیل سے ذکر کیا ہے تاکہ ہر شخص فرائض کے ساتھ سنن و نوافل کو بھی پابندی سے اور کرنے گے۔ کتاب کے آخر میں امر بالمعروف اور نهى عن المکر کی ذمہ داری کو بھی بیان کیا ہے کہ ہر شخص اپنی ذات سے نمازوں کو قائم کر کے اس بات کی غیر ارشادی کوشش کرے کہ ہر کلمہ گو نماز کا اہتمام کرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میری اس کوشش کو قبول فرمایا کہ اس کتاب کو مسلمانوں کے لئے حقیقی نماز پڑھنے کا ذریعہ بنادے۔

احادیث کے اختباب اور اس کے ترجمہ میں انتہائی احتیاط کا پہلو اختیار کیا ہے بھرپھی اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ناشر کو طبع کر دیں تاکہ ایڈیشن سے قتل، اسکی تصحیح کر لی جائے۔ آخر میں ان تمام احباب کا شکرگزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کے آغاز سے لیکر اشاعت تک کسی نہ کسی پہلو سے کتاب کو پایہ تھجیل نہ کرنا پہنچانے میں حصہ لیا۔ بالخصوص استاذ حضرت مولانا عبدالحق صاحب کامنون ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود مقدمہ تحریر فرمایا۔ نیز اللہ جل شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی خدمات کو قبول فرمایا کہ جہاں کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ قارئین کرام سے بھی درخواست ہے کہ ان کے لئے اور میرے لئے دعا کیں فرمائیں۔

رَبَّنَا تَقْعِيلُهُ مَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الشَّمِيعُ الْغَلِيقُ وَتَبَعَّذْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْقَوَّابُ الرَّحِيمُ

محمد نجیب سنبلی

مقیم حال، ریاض، سعودی عرب

۱۴۲۴ جمادی الاولی

تعارف

(حضرت مولانا عبدالحالق صاحب سنبھلی۔ استاذ حدیث و عربی ادب دارالعلوم دیوبند)

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و بعد!

ہر مؤمن جانتا ہے کہ اسلام میں نماز کیا مقام ہے کہ فرانس کے اندر اس کو اولین مقام حاصل ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ نماز کا حکم اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، چنانچہ کہیں فرمایا: ﴿إِن الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ تو کہیں فرمایا: ﴿خَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾۔ نیز کہیں فرمایا: ﴿فَقَدْ أَفَعَّلَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ حَاضِرُونَ﴾۔ اور حضور اکرم ﷺ نے ﴿الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ، مَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ﴾ فرمادیں اسلام کے لئے نماز کو اصل اصول قرار دیا۔ حدیث بالا کی تشریع، حضرت عمر فاروقؓ نے ان الفاظ سے کی: (میرے نزدیک تمہارے امور میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ جس نے نماز کی پابندی کر کے اس کی حفاظت کی اس نے پورے دین کی حفاظت کی اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ نماز کے علاوہ دین کے دیگر ارکان کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا)۔ اس تشریع سے نماز کا اصل اصول، عظیم عبادت اور مهم بالشان عمل ہوتا روز روشن کی طرح واضح ہوجاتا ہے۔

ملت اسلامیہ کے سامنے علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں راستی کی راہ و کھاتے رہتے ہیں اور ہر شعبہ زندگی سے متعلق قرآن پاک کی تعلیمات اور اسوہ رسول ﷺ پیش کرتے رہتے ہیں۔ بحکم اللہ پیاسی ملت کو زمزم اسلام کے جام فراہم ہوتے رہتے ہیں۔ دینی و قلمبی کتب کی شکل میں بھی خاصاً مواد بر ابر فراہم ہو رہا ہے جس سے نسل فتحی کو دور کرتی رہتی ہے

اور جن مقامات پر علماء دین نہیں ہیں یا ان کو طلت اسلامیہ کا درج نہیں ہے تو ہاں لوگ تاریکی میں رہتے ہیں اور ارکانِ دین کی درستی کا حق ادا نہیں ہوتا جبکہ حکام سے بھی غافل رہتے ہیں۔

نماز کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق عزیز مکرم مولانا محمد نجیب قائم سنجھی سلمہ نے بھی یہ مجموعہ.....(حکیٰ علیٰ الصَّلَاة) تیار کیا ہے۔ تقریباً ۷۵ آیات اور ۲۲۵ احادیث رسول ﷺ سے اپنے موضوع کو مزین کیا ہے۔ مؤلف موصوف دارالعلوم دیوبند کے نوجوان فاضل ہیں۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں اساتذہ کے لئے مرکز توجہ رہے۔ علمی خانوادہ کے چشم و چاراغ ہیں۔ ان کے جداً مجدد حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب سنجھی رحمۃ اللہ علیہ کئی بڑے اداروں میں شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ مصنف بھی بحمد اللہ علیٰ اور باصلاحیت ہیں۔ دیار جبیب ﷺ (محاج مقدس) میں مقیم ہیں۔ دینی جذب ان میں شروع ہی سے کارفرما ہے۔ اب ان کی صلاحیتیں سامنے آ رہی ہیں اور اپنے قلمی سفر کا آغاز موصوف نے دین کے اہم رکن نماز کے موضوع سے کیا ہے۔ بہت صاف ستر انداز ہے کہ جسکو خاص و عام کیاں طور پر سمجھ لیں۔ کتاب میں تیس سے زیادہ ابواب ہیں۔ ترتیب عمدہ ہے اور نماز کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق تمام ضروری چیزیں آگئی ہیں اور مدل کر کے ہر بات کو پیش کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید قوی ہے کہ موصوف کی یہ مخلصانہ کاوش قدر کی نگاہ سے دیکھی جائیگی اور اس کو قبولیت عامہ حاصل ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے افادہ کو عام و تمام فرمائے اور آئندہ عزیز مؤلف سلمہ کو مزید علمی خدمات کی توفیق ارزانی فرمائے۔
آمين یارب العالمین۔

خیر خواہ :

عبدالحالق سنجھی

استاذ دارالعلوم دیوبند (الہند)

نماز کی فرضیت

اللہ اور اس کے رسول پر بایمان لانے کے بعد سب سے پہلا اور اہم فرضیت نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان پر عائد کیا گیا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا مالدار، صحت مند ہو یا بیمار، طاقت ور ہو یا کمزور، بوڑھا ہو یا نوجوان، مسافر ہو یا مقیم، بادشاہ ہو یا غلام، حالتِ امن ہو یا حالتِ خوف، خوشی ہو یا غم، گرمی ہو یا سردی، حتیٰ کہ جہاد و قتال کے عین موقعہ پر میدانِ جنگ میں بھی یہ فرضِ معاف نہیں ہوتا ہے۔

قرآن و حدیث میں اس اہم اور بنیادی فرضیت کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ صرف قرآن پاک میں تقریباً سات سورتیں، کہیں اشارہ اور کہیں صراحةً مختلف عنوانات سے نماز کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں صرف چند آیات اور بعض احادیث شریفہ ذکر کی جا رہی ہیں:

آیات قرآنیہ:

* **إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا** (سورة النساء 103)

یقیناً نمازوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔

* **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوْا الزَّكَةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّأْكِعِينَ** (سورة البقرہ 43)
اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

* **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوْا الزَّكَةَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْهَمُونَ**

(سورة النور 56)

نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر حرج کیا جائے۔

* **حَفِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ**

(سورة البقرہ 238)

نمازوں کی خلافت کرو بالخصوص درمیان والی نماز (یعنی عصر) کی۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔

* **أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسْقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا** (سورہ بنی اسرائیل 78)

نمازوں قائم کرو آفتاب کے ڈھلنے سے لیکر رات کی تاریکی تک اور جو کہ قرآن پڑھنا بھی۔ یقیناً جو کہ قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے (یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں)۔

دُلُوكُ الشَّمْسِ: سے ظہر اور عصر کی نمازوں اور **غَسْقِ اللَّيْلِ**: سے مغرب اور عشاء کی نمازوں مراد ہیں۔ **قُرْآنَ الْفَجْرِ**: سے جو کہ نمازوں مراد ہے۔

* **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَوَّفِيِ النَّهَارِ وَذَلِكَا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْمُسَنَّاتِ يَذُوبُنَ السَّبَكَاتِ** (سورہ ہود 114)

دن کے دو فوں سروں میں نمازوں قائم رکھ اور رات کے کچھ حصہ میں بھی۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔

احادیث نبویہ:

* عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنْيِ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواہ البخاری - الإیمان وقول النبي بنی الإسلام على خمس / مسلم - بیان اركان الإسلام....)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا (یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور محمد ﷺ کے

رسول ہیں)، نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔

* عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي اللہ عنہ قال: بَعَثَنِي رَسُولُ اللہِ صَلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ أَطَاعُوهُا لِذَلِكَ فَاغْلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلِيلَةٍ ... (رواه البخاري - وجوب الزکاة / ومسلم - الدعاء إلى الشهادتين ..)

حضرت معاذ بن جبل رضي اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے یمن سمجھا تو ارشاد فرمایا: تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اللہ کے کتاب میں، لہذا سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب اس بات کو مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ پانچ نمازوں ان پر (ہر مسلمان پر) فرض کی ہیں۔

* عَنْ أَبْنَى عَمْرَ رضي اللہ عنہما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْرَنَّ أَنْ أَقَاتِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهُدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيَؤْتُوا الزَّكَةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (رواه البخاري - باب: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ / ومسلم - باب الأمر بقتل الناس حتى)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضي اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ کے رسول ہیں، اور نمازوں کو قائم کریں، اور زکاۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کر لیں گے تو انکی جان و مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گا یا کہ کسی اسلامی حکم کی رو جان و مال زدیں آئے۔ اور ان کے اعمال کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

* عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمْلِ فَانَّا خَةَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكَبِّرٌ بَيْنَ ظَهَرِ أَنِيْهِمْ، فَقَلَّنَا: هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَكَبِّرُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّمَا عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: قَدْ أَجَبْنَاكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُسْدَدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدُ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ. فَقَالَ: سُلْ عَمًا بَدَا لَكَ فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلَّهُمْ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ: أَنْشَدْتُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصْلِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي النَّيْمَ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ (رواه البخاري - باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علماً)

حضرت انس بن مالک رضي الله عنه روايت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا، اونٹ کو مسجد میں بھاکر باندھ دیا پھر کہنے لگا تم میں محمد کون ہیں؟ حضور اکرم ﷺ صاحبہ کرام کے درمیان تشریف فرماتھے۔ ہم نے کہا یہ صاحب جو گوری رنگت والے اور فیک لگائے ہوئے ہیں یہی حضور ہیں۔ اس شخص نے حضور ﷺ سے کہا آپ ہی عبد المطلب کے فرزند ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں، پھر اس شخص نے حضور سے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور سوالات میں روکھا پن ہو گا آپ میری بات کا براہمانتے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا جو چاہو معلوم کرو۔ وہ شخص کہنے لگا میں آپ کے اور آپ سے پہلے لوگوں کے پروردگار کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس شخص نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم روزانہ پانچ نمازیں پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔.....

* عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ليلة أسرى به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد! إنه لا ينكر القول لدلي وإن لك بهذه الخمس خمسين (الترمذى - باب ما جاءكم فرض الله على عباده من الصلوات) حضر أنس بن مالك رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ فہر مراجع میں نبی اکرم ﷺ پر پچاس نمازوں فرض ہوئیں، پھر حکم ہوتے ہوئے پانچ رہ گئیں۔ آخر میں (الله تعالیٰ کی طرف سے) اعلان کیا گیا۔ اے محمد! میرے ہاں بات بدلتی نہیں جاتی، لہذا پانچ نمازوں کے بدلتے پچاس ہی کا ثواب ملے گا۔

وضاحت) صرف نماز ہی دین اسلام کا ایک ایسا عظیم رکن ہے جسکی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ سماں آسمانوں کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر مراجع کی رات ہوا۔ نیز اسکا حکم حضرت جبرايل عليه السلام کے ذریعہ نبی اکرم ﷺ تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذاتی خود اپنے حبیب ﷺ کو عطا فرمایا۔

* قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر (رواه البخاري - كتاب الصلاة - باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء / مسلم - باب صلاة المسافرين وقصرها).

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں سفر و حضر دونوں حالتوں میں دو رکعت ہی فرض کی تھیں، اس کے بعد حالات سفر میں نمازوں کی بھی حالت پر باقی رکھی گئی (یعنی دو دو رکعت) اور حضرت کی نمازوں میں اضافہ کر دیا گیا (یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں چار چار رکعت)۔

نماز کی اہمیت

نماز، ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآنِ کریم اور احادیث نبویہ میں نماز کی اہمیت و فضیلت کو کثرت سے ذکر کیا گیا ہے جن میں نماز کو قائم کرنے پر بڑے بڑے وعدے اور نماز کو ضائع کرنے پر تغییر و عیدیں وارد ہوتیں ہیں۔ یہاں بعض آیات و احادیث شریفہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

آیات قرآنیہ:

*
أَقْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (سورة العنكبوت 45)

جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھئے اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔

﴿وضاحت﴾ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت و تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے مگر ضروری ہے کہ خاصیت تک اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو اُن شرائط و آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لئے ضروری ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اُس کی نماز عنقریب اُس کو اس برے کام سے روک دے گی۔ (مسند احمد، صحیح ابن حبان، بزار)

*
بِإِيمَانِ الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَهِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ (سورة البقرة 153)

اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو، بیکل اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں

کے ساتھ ہے۔

* وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى النَّاسِ عَيْنٍ

(سورہ البقرۃ 45)

صبر اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق دیکھاری ہے مگر (اللہ کا) ذر رکھنے والوں پر (آسان ہے)۔

(وضاحت) جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت سامنے آئے تو مسلمان کو چاہئے کہ وہ اُس پر صبر کرے اور نماز کا خاص اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے جحضور اکرم ﷺ بھی ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے جیسا کہ حدیث میں ہے: حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا، آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے (ابوداؤد و مسند احمد)۔

(نبی اکرم ﷺ پائی فرض نمازوں کے علاوہ نمازِ تہجد، نمازِ اشراق، نمازِ چاشت، حجۃ الوضوء اور حجۃ المسجد کا بھی اہتمام فرماتے۔ اور پھر خاص خاص موقع پر اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کے لئے نماز ہی کو ذریعہ بناتے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے۔ زلزلہ، آندھی یا طوفان حتیٰ کہ تیز ہوا بھی چلتی تو مسجد تشریف لے جا کر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ فاتحہ کی نوبت آتی یا کوئی دوسری پریشانی یا تکلیف پہنچتی تو مسجد تشریف لے جاتے۔ سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جا کر نماز ادا کرتے)۔

اس لئے ہمیں بھی چاہئے کہ نمازوں کا خاص اہتمام کریں۔ اور اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نماز میں ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔

* وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَحَكُومٌ لَّئِنْ أَفْتَمْتُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْنَتُ الزَّكَاءَ سورہ النساء 12

اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ میں تمہارے ساتھوں ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکاۃ

دیتے رہو گے.....

فِوْضَاحَتْ) یعنی نمازوں کی پابندی کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بندہ کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب بحدے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے، خاص کر نماز کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔

احادیث نبویہ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ صَلَحتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ (رواه الترمذی)
باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد، ورواه ابن ماجة والنمساني وأبو داود وأحمد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 Qiامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائیگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ ناکام اور خسارہ میں ہوگا۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَرْطَنَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ صَلَحتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ رواه الطبراني في الأوسط (الترغيب والترهيب - الترهيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها).

حضرت عبد اللہ بن قرط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 Qiامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔

* عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (رواه البخاري - باب فضل الصلاة لوقتها / ومسلم - بيان كون الإيمان باشة أفضـل الأعمال) حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرمـاتـے ہـیں کـہ مـیں نـے رسول اللـہ ﷺ سـے دریافت کیا کہ اللـہ کو کـونا عمل زـیادہ مـحبـوب ہـے؟ آپ ﷺ نـے ارشاد فرمـایا: نـماز کـو اس کـے وقت پـر ادا کـرـنا۔ حضرت عبد الله بن مـسـعـود رـضـيـ اللـہـ عـنـہـ فـرمـاتـے ہـیں مـیں نـے کـہا کـہ اـسـ کـے بعد کـونـا عمل اللـہـ کـو زـیادہ پـسـند ہـے؟ تو آپ ﷺ نـے فـرمـایا: والـدـینـ کـی فـرـمانـبرـدارـی۔ حضرت عبد الله بن مـسـعـود رـضـيـ اللـہـ عـنـہـ فـرمـاتـے ہـیں مـیں نـے کـہا کـہ اـسـ کـے بعد کـونـا عمل اللـہـ کـو زـیادہ مـحبـوب ہـے؟ تو آپ ﷺ نـے فـرمـایا: اللـہـ کـے رـاستـہ مـیں جـہـادـ کـرـنا۔

* عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كـنـا عـنـدـ رسول اللـہـ فـقـالـ: أـلـا تـبـاـيـعـونـ رـسـوـلـ اللـہـ؟ فـرـدـدـهـاـ ثـلـاثـ مـرـأـتـ ، فـقـدـمـنـاـ أـيـدـيـنـاـ فـبـاـيـعـنـاـ، فـقـلـنـاـ يـاـ رـسـوـلـ اللـہـ! قـدـ بـاـيـعـنـاـكـ فـعـلـامـ؟ قـالـ: عـلـىـ أـنـ تـعـبـدـوـ اللـہـ وـلـا تـشـرـكـوـ بـهـ شـيـئـاـ وـالـصـلـوـاتـ الـخـمـسـ - وـأـسـرـ کـلمـةـ خـفـيـةـ - أـنـ لـا تـسـأـلـوـ النـاسـ شـيـئـاـ (رواه النـسـانـيـ - بـابـ الـبـيـعـةـ عـلـىـ الصـلـوـاتـ الـخـمـسـ / وـروـاهـ ابنـ مـاجـةـ وـأـبـوـ دـاؤـدـ وـهـذـاـ لـفـظـ النـسـانـيـ).

حضرت عوف بن مالک اشجعی رضي الله عنه فرمـاتـے ہـیں کـہ ہـمـ رسول اللـہ ﷺ کـے پـاسـ بـیـٹـھـے ہـوـئـے تـھـے۔ آپ ﷺ نـے ارشاد فرمـایا: اللـہـ کـے رسول سـے بـیـعـتـ نـہـیںـ کـرتـے؟ آپ ﷺ نـے تـینـ مرـتـیـہـ اـسـکـوـ کـہـاـ، تو ہـمـ نـے اـپـنـےـ ہـاتـھـ بـیـعـتـ کـے لـئـے بـڑـھـاوـےـ اـورـ بـیـعـتـ کـیـ۔ ہـمـ نـے کـہـاـ: اـےـ اللـہـ کـے رسولـ! ہـمـ نـے کـسـ چـیـزـ پـرـ بـیـعـتـ کـیـ؟ تو آپ ﷺ نـے فـرمـایا:

صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نمازوں کی پابندی کرو۔
اس کے بعد آہستہ آواز میں کہا: لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔

* عن عبد الله بن عمّرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَفَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ نُورًا وَبِرْهَانًا وَنَجَاهَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَفِّظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاهَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَهَامَانَ وَأَبِي إِبْرَاهِيمَ خَلْفٍ (رواہ ابن حبان فی صحيحہ - ذکر الضر عن ترك المرأة المحافظة على الصلوات / ورواه الطبراني والبيهقي وأحمد).

حضرت عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم ﷺ نے نمازوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: جو شخص نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو نمازوں کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی، اس (کے پورے ایماندار ہونے) کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو شخص نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لئے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس (کے پورے ایماندار ہونے) کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اور وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، هامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

(وضاحت) علامہ ابن قیمؒ نے (كتاب الصلاة) میں ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ان ہی باتوں کی وجہ سے نمازوں میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھیں۔ پس اگر اسکی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا اور اگر حکومت و سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ اور وزارت (یا ملازمت) ہے تو هامان کے ساتھ اور تجارت ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ حشر ہوگا۔

جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بالکل نمازوں نہیں پڑھتے یا کہی کبھی پڑھ

لیتے ہیں، وہ غور کریں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ یا اللہ! اس انجام بدم سے ہماری حفاظت فرم۔

* عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّيْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ (رواه مسلم - كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء).

حضرت ابوالکشاف الشاذري رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنار وحشی ہے اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے (یعنی اگر اسکی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا)۔

* عَنْ مَعاذِ بْنِ جَبَلِ رضي الله عنه قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَصْبَخْتُ يَوْمًا قَرِينًا مِنْهُ وَتَحْنُّ نَسِيرًا فَقَلَّتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَخْبَرْتُ يَوْمًا قَرِينًا مِنْهُ وَتَحْنُّ نَسِيرًا فَقَلَّتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَخْبَرْتُ يَوْمًا قَرِينًا مِنْهُ وَتَحْنُّ نَسِيرًا فَقَلَّتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَخْبَرْتُ يَوْمًا قَرِينًا مِنْهُ وَتَحْنُّ نَسِيرًا فَقَلَّتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَخْبَرْتُ يَوْمًا قَرِينًا مِنْهُ وَتَحْنُّ نَسِيرًا فَقَلَّتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَخْبَرْتُ يَوْمًا قَرِينًا مِنْهُ وَتَحْنُّ نَسِيرًا فَقَلَّتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَخْبَرْتُ يَوْمًا قَرِينًا مِنْهُ وَتَحْنُّ نَسِيرًا فَقَلَّتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَخْبَرْتُ يَوْمًا قَرِينًا مِنْهُ وَتَحْنُّ نَسِيرًا فَقَلَّتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَخْبَرْتُ يَوْمًا قَرِينًا مِنْهُ وَتَحْنُّ نَسِيرًا فَقَلَّتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَخْبَرْتُ يَوْمًا قَرِينًا مِنْهُ وَتَحْنُّ نَسِيرًا فَقَلَّتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَخْبَرْتُ يَوْمًا قَرِينًا مِنْهُ وَتَحْنُّ نَسِيرًا فَقَلَّتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَخْبَرْتُ يَوْمًا قَرِينًا مِنْهُ وَتَحْنُّ نَسِيرًا فَقَلَّتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَخْبَرْتُ يَوْمًا قَرِينًا مِنْهُ وَتَحْنُّ نَسِيرًا فَقَلَّتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَخْبَرْتُ يَوْمًا قَرِينًا مِنْهُ وَتَحْنُّ نَسِيرًا فَقَلَّتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ!

سَأَلْتَهُ عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسِّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتَؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحْجُجُ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ إِلَسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواه ابن ماجہ - باب کف اللسان في الفتنة / والترمذی - باب ما جاء في حرمة الصلاة ورواه أحمد في مسنده {حدیث صحیح}).

حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی اکرم ﷺ کے

ساتھ تھا۔ ایک دن میں آپ ﷺ کے قریب تھا، ہم سب جل رہے تھے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے پیغمبر! آپ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جسکی بدولت میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم نے بڑی بات پوچھی ہے۔ لیکن اللہ جس کے لئے آسان کروے اس کے لئے آسان ہے۔ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکاۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس معاملہ کی اصل، اس کا ستون اور اسکی عظمت نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور۔ آپ ﷺ نے فرمایا: معاملہ کی اصل اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اسکی عظمت اللہ کی راہ میں چہار ہے۔

* عنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتَخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى خَمْسُ صَلَوَاتٍ إِفْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتَخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ قَدْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتَخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ . (رواہ مالک في المؤطا - باب الأمر بالوثر / ابن ماجہ - باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها ورواه أبو داود وأحمد).

حضرت عبادہ بن صالح رحمہ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سن: اللہ تعالیٰ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو ان

نمازوں کو اس طرح لیکر آئے کہ ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے تو حق تعالیٰ شانہ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ اور جو شخص ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اسکو عذاب دیں چاہے جنت میں داخل کرویں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازوں کی فرض فرمائی ہیں، جو ان نمازوں کو (قیامت کے دن) اس طرح لیکر آئے کہ ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے عہد کر کے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور جو ان نمازوں کو اس طرح لیکر آئے کہ ان میں لاپرواہیوں سے کوتاہیاں کی ہیں تو اللہ کا اس سے کوئی عہد نہیں چاہے اسکو عذاب دیں، چاہے معاف فرمادیں۔ غور فرمائیں کہ نماز کی پابندی پر جسمیں زیادہ مشقت بھی نہیں ہے، مالک الملک دو جہاں کا بادشاہ جنت میں داخل کرنے کا عہد کرتا ہے پھر بھی ہم اس اہم عبادت سے لاپرواہی کرتے ہیں۔

* عن حنظلة الأستىدي رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَفَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهَا وَمَوَاقِفِهَا وَرَكُوعِهَا وَسُجُودِهَا يَرَاهَا حَقًا لَّهِ عَلَيْهِ حُرْمَةً عَلَى النَّارِ (رواه
أحمد في مسنده - حدیث حنظلة الكاتب الاسیدی).

حضرت حنظله اسیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجده اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمہ ضروری سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا گیا۔

* عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مفتاح الجنة الصلاة و مفتاح الصلاة الطهور (رواه الترمذی - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور / ورواه أحمد في مسنده).

حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی پاکی (وغضو) ہے۔

* عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِ رضي الله عنه قالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بُوْضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ، فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَاقِفَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ: أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَأَعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ (رواه مسلم - باب فضل السجود والحدث عليها).

حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم ﷺ کے پاس آپ کی خدمت کیلئے رات گزارتا تھا، ایک رات میں نے آپ کے لئے وضو کا پانی اور ضرورت کی چیزوں پیش کیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سوال کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ میں نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے علاوہ کچھ اور۔ میں نے کہا: بس بھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لئے زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ (یعنی نماز کے اہتمام سے یہ خواہش پوری ہوگی)۔

خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو اس دنیاوی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کر کے جنت الفردوس میں تمام نبیوں کے سردار حضرت مختار ﷺ کی مرافت پائیں۔

* عَنْ أَنَسِ رضي الله عنه قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (رواه النسائي - باب حب النساء ، ورواه البیهقی والحاکم وأحمد).

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

..... میری آنکھوں کی خندک نماز میں رکھی گئی ہے۔

* عنْ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ قَالَ: كَانَ أَخْرُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ، اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ (رواه ابو داود - باب في حق الملوك وأحمد في مسنده وصححه الألباني).

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے اکلا آخری کلام (نماز، نماز اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو) تھا۔

* عنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ مِنْ أَخْرِ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ، وَمَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ، حَتَّى جَعَلَ نَبِيُّ اللَّهِ يُلْجِأُ لَجَهَّا فِي صَدْرِهِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ (رواه أحمد في مسنده ج 6 ص 290).

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرمائی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی: نماز، نماز۔ اپنے غلاموں (اور ماتحت لوگوں) کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ جس وقت آپ ﷺ نے یہ وصیت فرمائی آپ ﷺ کی زبانی مبارک سے پورے لفظ میں تکلیف رہے تھے۔

* عنْ عَمْرُو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أُبِيِّهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُونَا أَوْ لَاكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِّينَ وَأَصْرِبُو هُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه ابو داود - باب متى یومر الغلام بالصلوة).

حضرت عمرو اپنے والد اور وہ اپنے وادا (حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنے بچوں کو سات سال کی عمر میں

نماز کا حکم کرو۔ دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو، اور اس عمر میں علیحدہ علیحدہ بستر وں پر سلاو۔

﴿وَضَاحَتْ﴾ والدین کو حکم دیا گیا کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسکی نمازوں کی غرائب کریں، دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر پٹائی بھی کریں تاکہ بلوغ سے قبل نماز کا پابند ہو جائے، اور بالغ ہونے کے بعد اس کی ایک نماز بھی فوت نہ ہو کیونکہ ایک وقت کی نماز جان بوجہ کر چھوڑنے پر احادیث میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، بلکہ بعض علماء کی رائے کے مطابق وہ مملکتِ اسلامیہ سے نکل جاتا ہے۔

*
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَتَبَ إِلَى عَمَالَةِ أَنَّ أَهْمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَفَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهُ أَضْرَيْعُ (رواه مالک في المؤطا - كتاب وقوت الصلاة - باب وقوت الصلاة).

حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنہ نے اپنے گورنوں کو یہ حکم جاری فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارے امور میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ جس نے نمازوں کی پابندی کر کے اسکی حفاظت کی، اس نے پورے دین کی حفاظت کی اور جس نے نمازوں کو ضائع کیا وہ نماز کے علاوہ دین کے دیگر ارکان کو زیادہ ضائع کرنے والا ہو گا۔

﴿وَضَاحَتْ﴾ حضرت عمر فاروق رضي الله عنہ کے اس ارشاد سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ جو شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے، وہ یقیناً دین کے دوسرے کاموں میں بھی سستی کرنے والا ہو گا۔ اور جس نے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کر لیا، وہ یقیناً پورے دین کی حفاظت کرنے والا ہو گا۔



قرآن و حدیث میں فجر اور عصر نمازوں کی خصوصی تاکید

نماز پڑھنے والوں میں سے ہمارے کچھ بھائی فجر اور عصر خاص کر فجر کی نماز میں کوتاہی
کرتے ہیں حالانکہ قرآن و حدیث میں ان دونوں نمازوں (فجر اور عصر) کی خاص تاکید
واہمیت مذکور ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔

آیات قرآنیہ:

* حَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ الْوَسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔
(سورہ البقرۃ 238)

نمازوں کی حفاظت کرو باخصوص درمیان والی نماز (یعنی عصر) کی۔ اور اللہ تعالیٰ
کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔

* أَقِمِ الصَّلَاةَ إِذْلُوكِ الشَّمْسِ إِلَيْهِ غَسِيقُ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًاً (سورہ بنی اسرائیل 78)

نمازوں کو قائم کرو آفتاب کے ڈھنے سے لیکر رات کی تار کی تک اور فجر کا قرآن پڑھنا
بھی۔ یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے (یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں)۔

احادیث نبویہ:

* عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ صَلَّى الْبَرْدِيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ (رواہ البخاری - باب فضل صلاة الفجر).
حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
جو شخص دو ٹھنڈی نمازوں (یعنی فجر اور عصر) پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

* عن أبي زهير عماره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يعني الفجر والعصر (رواہ مسلم - باب فضل صلاتی الصبح والعصر والمحافظة علیہما).

حضرت ابو زہیر عمارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: وَهُنَّا كُلُّ هُنَّا كُلُّ هُنَّا جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی مجر اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نمازوں پابندی سے پڑھیں۔

* عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْعَاقِبُونَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَةِ الْفَجْرِ وَصَلَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ (رواہ البخاری - باب فضل صلاة العصر / مسلم - باب فضل صلاتی الصبح والعصر والمحافظة علیہما).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے رہتے ہیں اور وہ مجر اور عصر کی نمازوں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تمہارے پاس ہوتے ہیں، آسمان پر چلتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ انھیں سب سے زیادہ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم انھیں نماز کی حالت میں چھوڑ کر رخصت ہوئے اور نماز ہنگی کی حالت میں اکٹھے پاس پہنچتے۔

* عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لِيَلَةً - يعني البدار - فقال: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ

كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِّي أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ
لَا تُغْلِبُوا عَلَى صَلَةِ قَبْلَ طَلْوَعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غَرُوبِهَا فَافْعَلُوا ،
شُمَّ قَرَأَ: سَبَبْ مِحْمَدٍ وَبَكَ قَبْلَ طَلْوَعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غَرُوبِهَا (رواہ
البخاری - باب فضل صلاة العصر / مسلم - باب فضل صلاتي الصبح والعصر
..... وزاد مسلم : يعني العصر والفجر).

حضرت جریر بن عبد اللہ در شی الله عز وجل فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے پاس تھے۔
اپ ﷺ نے چودھویں کے چاند کو دیکھا تو فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس
چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں ذرا بھی لٹک و شبہ نہ ہوگا، لہذا تم اگر سورج کے طلوع اور غروب
ہونے سے قل نمازوں (نجم اور عصر) کا اہتمام کر سکو تو ضرور کرو۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت
فرمائی: ترجمہ: (سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی پا کی بیان کر)۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نمازوں کی پابندی، خاصکر نجم اور عصر کی نمازوں کے
اہتمام سے جنت میں اللہ جل شانہ کا دیدار ہوگا جو جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔
مجذوذ الفیض ثانی شیخ احمد رہنمنی جلد اول، مکتب نمبر ۱۳ میں لکھتے ہیں: معلوم ہونا
چاہئے کہ دنیا میں نماز کا درجہ وہی ہے جو آخرت میں دیدارِ الہی کا ہے۔ اس دنیا میں بندہ کو
مولیٰ کا انتہائی قرب نماز ہی میں حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں انتہائی قربت دیدار کے
وقت نصیب ہوگی۔ (نماز کی حقیقت)

* عنْ جَنْدِبِ بْنِ سَفِيَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي نِمَّةِ اللَّهِ ، فَلَا يَطْلَبُنَاكَ اللَّهُ مِنْ
نِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيَدْرِكُهُ فِي كِبَّةِ نَارِ جَهَنَّمَ (رواہ مسلم - باب فضل
صلاة العشاء والصبح في جماعة)

حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: جو شخص مجھ کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے (لہذا اسے نہ ستاو) اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لئے ہوئے شخص کو ستانے کی وجہ سے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرمائیں کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لئے ہوئے شخص کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے اسکی پکڑ فرمائیں گے مگر اسے اندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔

* عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَكَانَمَا قَامَ نَصْفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبُّحَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَكَانَمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ (رواہ مسلم - باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة).

حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے تھا: جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، گویا اس نے آدھی رات عبادت کی اور جو مجھ کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔

* عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِي تَفَوَّتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (رواہ البخاری - باب اثم من فانته العصر / مسلم - باب التغليظ في تقويت صلاة العصر).

حضرت عبد اللہ بن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کی عصر کی نمازوں کوت ہو گئی، وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے مگر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔

* عَنْ بُرِيَّةَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ (رواہ البخاری - باب اثم من ترك للعصر).

حضرت بریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جس نے عمر کی نماز چھوڑ دی، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔

* عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي اللهم عنه قالَ ذُكِرَ عِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ: ذاكَ رَجُلٌ بَالَّشَّيْطَانِ فِي أَذْنِيهِ أَوْ قَالَ فِي أَذْنِهِ وَفِي رِوَايَةِ حَتَّى أَصْبَحَ وَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخاري - باب صفة ابليس وجنده / ومسلم - باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح). قالَ سُقِيَانُ ثُورِيَ رَحْمَةُ اللَّهِ: هَذَا عِنْدَنَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ نَامَ عَنِ الْفَرِيقَةِ (ابن حبان - ذكر الأخبار عما يستحب للمرء من كثرة التهجد)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صحیح ہونے تک سوتا رہتا ہے (یعنی مجرم کی نماز ادا نہیں کرتا ہے)۔

تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایسے شخص کے کافلوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامٌ. ثَلَاثَ عَقْدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلَّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلَ طَوِيلَ فَارْقَدُ. فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَهُ، فَاصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ (رواه أبو داود - قیام اللیل)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اسکی گذگڈی پر تین گریں لگادیتا ہے۔ ہر گرد پر یہ پھونک دیتا ہے (ابھی رات بہت پڑی ہے، سوتا رہ)۔ اگر انسان بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اگر غصو کر لیتا ہے تو دوسرا گرہ بھی کھل جاتی ہے۔

پھر اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ چنانچہ صبح کو پختہ ہشائش بھاش ہوتا ہے۔ اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو ستر ہتا ہے، طبیعت بوجھل ہوتی ہے۔

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أشقل على المُنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهم لأن وهم حبوا (رواه البخاري - باب فضل العشاء في جماعة).
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مُنَافِقُونَ پُر سب سے بھاری عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں، اگر انہیں عشاء اور فجر کی نمازوں کی نصیلت معلوم ہو جاتی تو وہ ان نمازوں کے لئے ضرور مسجد جانتے چاہے انہیں (کسی بیماری کی وجہ سے) گھست کر دی جانا پڑتا۔

* عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُنّا إذا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِي الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ أَسَانَا بِهِ الظُّنُنُ رواه الطبراني في الكبير والبزار (مجمع الزوائد - باب صلاة العشاء الآخرة والصبح في جماعة).

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی شخص کو فجر اور عشاء کی نمازوں میں نہیں پاتے تو ہمیں اس کے سلسلہ میں بدگانی ہونے لگتی۔ (یعنی یہ شخص کہیں مُنَافِق وَنَهِيْنَ کیونکہ مُنَافِقُونَ پر یہ عشاء اور فجر کی نمازیں بھاری پڑتی ہیں)۔

* عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله يعني مما يكثرون أن يقول لأصحابه: هل رأي أحد منكم من رؤيا؟ قال فيقصر عليه ما شاء الله أن يقص ، وإن قال ذات غادة: إنه أتاني الليلة أتىآن ، وإنما ابنتي ثانية وإنما قالا لي : إنطلقا ، وإنني انطلقت معهما ، وإنما أتىنا على رجلي مُخْطَبِجٍ وإذا

آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيبلغ رأسه في هذه الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل مرأة الأولى، قال قلت لهم سبحان الله ما هذان؟ قالا لي: إنطلق، إنطلق أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يتناثر رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرقضنه وينام عن الصلاة المكتوبة (رواه البخاري - باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح).

حضرت سره بن جندب رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے فرماتے: کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھتا تو یہاں کرتا (حضور اسکی تعبیر ارشاد فرماتے) ایک دن صبح کو آپ ﷺ نے فرمایا: (میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ) دو آنے والے میرے پاس آئے، محمد کو اخفا کر کہا کہ چلتے، میں ان دونوں کے ساتھ چلا گیا۔ ہم ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص بڑا پھر لیکر اس کے پاس کھڑا تھا وہ شخص اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر پھر کو اس طرح مارتا ہے کہ سر پھر سے کچل جاتا ہے اور پھر لڑکتا ہوا دور جا پڑتا ہے اتنے میں وہ اس پھر کو اخفا کرتا ہے وہ سر پھر صبح ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ پھر دوبارہ اس کے سر پر پھر مارتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: میں نے ان دونوں ساتھیوں سے دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ابھی آگے تشریف لے چلیں۔ (بہت لمبی حدیث ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے جنت اور دوزخ دیکھی اور مختلف قسم کے عذاب لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھا) آخر میں ان فرشتوں نے بتایا کہ جس شخص کو پھر سے کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جو قرآن کو یاد کر کے چھوڑ دیتا ہے اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے۔

نمازِ فجر کی پا جماعت ادا سُکی میں معاون چند امور

اگر مندرجہ ذیل چند امور کا خاص اہتمام رکھا جائے تو انشاء اللہ فجر کی نماز
جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا:

- ۱) فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کے فضائل ہمارے سامنے ہوں۔ (گزینے مفہوم کا طالع کریں)
- ۲) فجر کی نماز جماعت سے ادا نہ کرنے کی وعیدیں ہمیں معلوم ہوں۔ (گزینے مفہوم کا طالع کریں)
- ۳) رات کو جلدی سوئیں۔ (بلا ضرورت عشاء کے بعد جانے کو علماء نے مکروہ کہا ہے)۔
- ۴) سوتے وقت فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مغلص بھی ہوں۔

۵) ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لئے اٹھنا آسان ہو۔ مثلاً الارم Alarm والی گھری میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اسکو مناسب جگہ پر رکھیں یا کسی ایسے شخص سے جو فجر کی نماز کے لئے پابندی سے احتتا ہے گھنٹی بجانے یا کواٹ کھنکھانا نے کی تاکید کر دیں وغیرہ۔

۶) وضو کر کے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ سوئیں کیونکہ اللہ کا نام لیکر سونے میں شیطان کے جملے سے ہفاظت رہے گی (انشاء اللہ)۔

- ۷) اگر ممکن ہو تو دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں، (یہ عمل مسنون بھی ہے)۔
 - ۸) مغرب کی نمازوں سے قبل یا مشرب اور عشاء کے درمیان نہ سوئیں۔
 - ۹) دیگر چار نمازوں کی پابندی کریں، اسکی بدولت پانچویں کی توفیق ہوگی (انشاء اللہ)۔
- اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاء اللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا، پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں۔ انشاء اللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔

نماز کی فضیلت

قرآن و حدیث میں نماز کے بے شمار فضائل مذکور ہیں، جن میں سے بعض فضیلتوں

یہاں ذکر کی جاری ہیں:

آیات قرآنیہ:

* قَدْ أَفْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَائِشُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُبَاطِلُونَ ، أَوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ
بَيْرَثُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورۃ المؤمنون ۱۱-۱)

یقیناً ایمان والوں نے فلاح (کامیابی) پائی جو انی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں
اور جو انی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں، بھی وارث ہیں جو (جنت) الفردوس
کے وارث ہوں گے جہاں وہ بیٹھ رہیں گے۔

ووضاحت ہے ان آیات میں کامیابی پانے والے مؤمنین کی چھ صفات بیان کی گئی ہیں: پہلی
صفت، خشوع و خضوع کے نتائج نمازوں ادا کرنا اور آخری صفت پھر، نمازوں
کی پوری طرح حفاظت کرنا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کا اللہ تعالیٰ کے پاس کیا درجہ ہے اور
کس قدر تم بالثانی چیز ہے کہ مؤمنین کی صفات کو نماز سے شروع کر کے نماز علی پر ختم فرمایا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث یعنی حق
دار ہوں گے، جنت بھی جنت الفردوس، جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں
جاری ہیں۔ غرض جنت الفردوس کو حاصل کرنے کے لئے نماز کا اہتمام بے خضروی ہے۔

* إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلَقَ هَلُوْعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ
مَنْوِعًا إِلَّا الْمُعْلَمُونَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ ، أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكَرَّمَةٍ

(سورة المعارج 35 - 36)

بیک انسان بڑے کچے دل والا بنا گیا ہے جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہر بڑا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو بجل کرنے لگتا ہے، مگر وہ نمازی جو انی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جو انی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔

﴿وضاحت﴾ ان آیات میں جنتیوں کی آٹھ صفات بیان کی گئی ہیں جن کو نماز سے شروع اور نمازی پر ختم کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز اللہ کی نظر میں کس قدر ہم تم بالشان عبادت ہے۔

* **الَّذِينَ يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَمَمَا رَزَقْنَاهُمْ بِيَنْفِقُونَ . أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا . لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ**

(سورة الانفال 3 ، 4)

جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہی لوگ ہیں۔ ان کے لئے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔

﴿وضاحت﴾ نماز کی پابندی کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے درجے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سعاف فرمایا کہ عزت کی روزی عطا فرماتا ہے۔

* **فَقَدْ أَفْلَمَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى** (سورة الأعلى 14 ، 15)

بیک اس نے فلاح (کامیابی) پائی جو (کفر و شرک کی گندگی سے) پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔

﴿وضاحت﴾ اس آیت اور اس کے علاوہ دیگر آیات میں صرف ایمان اور نماز کو جو

دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بتلایا گیا ہے، اسکی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شخص نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ و قتوں پر ادا کرنے والا ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ﴾ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور اگر کبھی کوئی گناہ اس سے ارتکاب ہو بھی گیا تو وہ جلدی ہی توبہ واستغفار کر کے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیگا۔

احادیث نبویہ:

* عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَّرَاتٌ لِمَا بَيْتَهُنَّ إِذَا اجْتَبَبَ الْكَبَائِرِ (رواه مسلم - باب الصلوات الخمس)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پانچوں نمازوں، جمعہ کی نمازوں پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لئے کفارہ ہیں جبکہ ان اعمال کو کرنے والا بڑے گناہوں سے بچے۔

* عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَاتٍ ، هَلْ يَنْقَىٰ مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَنْقَىٰ مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، يَمْحُوا اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا (البخاری - الصلوات الخمس کفارہ / و مسلم - باب المشی إلى الصلاة).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: یہاں اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جسمیں وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی

باقی نہ رہے گا۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں لیعنی صاف کر دیتے ہیں۔

* عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضيَ اللشَّعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ (رواه مسلم - باب المشي إلى الصلاة).

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پانچوں نمازوں کی مثال اسکی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جسکا پانی جاری ہو اور بہت گمرا ہو، اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے۔

* عن سُلَيْمَانَ رضيَ اللشَّعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَلَا حُسْنَ الْوُضُوءِ ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ تَحَاتَّ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ هَذَا الْوَرَقُ وَقَالَ: أَفِيمُ الْعَلَاءَ طَرَقَيِ الدَّهَاءِ وَزَلَّاً مِنَ اللَّيْلِ ، إِنَّ الْمُعْسِنَاتِ يَذْهَبُنَّ الْعَيْنَاتِ (رواه احمد في مسنده - ج 5 ص 437).

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب سلمان اپنی طرح وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازوں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرجاتے ہیں جیسے یہ پتے گر رہے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے قرآن کریم کی یہ آیت حلاوت فرمائی (ترجمہ): اے محمد! آپ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا کیجئے۔ پیشک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ باتیں، مکمل صحیح ہیں ان لوگوں کے لئے جو صحیح قبول کرنے والے ہیں۔

* عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظْلَمُهُمُ اللَّهُ فِي ظَلَّهُ يَوْمَ لَا ظَلَّ إِلَّا ظَلَّهُ وَذَكَرَ مِنْهُمْ: رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ (رواه البخاري - باب الصدقة باليمين / مسلم - بباب فضل إخفاء الصدقة).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
سات قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ جن شانہ اپنی (رحمت کے) سایہ میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان سات لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد سے الکا ہوا ہو (یعنی نماز کو وقت پر ادا کرتا ہو).....

* عن أنسٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ (رواه البخاري - باب ليزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى / مسلم - بباب النهي عن البصاق في المسجد).

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
تم میں سے جب کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے مناجات (سرگوشی) کرتا ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) قَالَ اللَّهُ "حَمَدَنِي عَبْدِي" فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) قَالَ اللَّهُ "أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي" فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ) قَالَ اللَّهُ "مَجَدَنِي عَبْدِي" فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قَالَ اللَّهُ "هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ" (رواه مسلم - بباب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة).

فرض نماز جماعت کے ساتھ

مرد حضرات کے لئے فرض نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے یا سنتِ مؤکدہ، اس سلسلے میں علماء کی مختلف رائیں ہیں۔ ایک جماعت کی رائے ہے کہ واجب ہے حتیٰ کہ بعض علماء کے نزدیک فرض نماز جماعت کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ علماء کی دوسری جماعت کی رائے ہے کہ سنتِ مؤکدہ ہے لیکن فرض نماز جماعت کے بغیر ادا کرنے پر فرض تو ذمہ سے ساقط ہو جائیگا، مگر معمولی عذر کی بنا پر جماعت کا ترک کرنا یقیناً گناہ ہے۔

غرض فرض نماز جماعت ہی کے ساتھ ادا کی جائے کیونکہ اسکی شروعیت جماعت کے ساتھ وابستہ ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل قرآن کی آیات اور احادیث شریفہ میں مذکور ہے۔
البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہو مثلاً بیماری، خوف، آندھی، طوفان، موسلا دھار بارش وغیرہ تو فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہوگا (انشاء اللہ)۔

آیات قرآنیہ:

* * *

يَوْمَ يُبَشِّرُكُمْ عَنْ سَاقٍ وَيَعْوَنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيْحُونَ.
خَاسِهَةٌ أَبْطَأَهُمْ نَرَاهُ قُمْهُمْ ذَلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يَهْبَعُونَ إِلَى السُّجُودِ
وَهُمْ سَالِمُونَ (سورة القلم ۴۲ ، ۴۳)

جس دن پنڈلی کھول دی جائیگی اور سجدہ کے لئے بلا میں جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ نکاہ نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری طاری ہو گی حالانکہ یہ سجدہ کے لئے (اس وقت بھی) بلا ہے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم یعنی محنت مند تھے۔

حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں اپنی ساق (پنڈلی) ظاہر فرمائے گا جس کو دیکھ کر مومنین سجدہ میں گر پڑیں گے مگر کچھ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان

لی کرنہ مژیگی بلکہ تختی ہو کر رہ جائیگی۔

یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت کعب الاحباد رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ یہ آیت
صرف ان لوگوں کے لئے نازل ہوئی ہے جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔

حضرت سعید بن میتبّ (ایک بہت بڑے تابعی) فرماتے ہیں: حی علی الصلاۃ،
حی علی الفلاح کو سنتے تھے مگر صحیح سالم، تدرست ہونے کے باوجود مسجد میں جا کر نماز ادا
نہیں کرتے تھے۔

غور فرمائیں کہ نمازیں نہ پڑھنے والوں یا جماعت سے ادا نہ کرنے والوں کو قیامت
کے دن کتنی سخت رسائی اور ذلت کا سامنہ کرنا پڑے گا کہ ساری انسانیت اللہ جل شانہ کے
سامنے بجھے میں ہو گی مگر بے نمازیوں کی کمریں تختی کے ماند کر دیجائیں گی اور وہ بجھہ نہ
کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ! ہم سب کی اس انجام بد سے خفافت فرمائے۔ آمین۔

* وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوْزَكَّاَةَ وَأُرْكَعُوا مَعَ الرَّأْكِعِينَ (سورہ للبقرۃ 43)
اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع
ادا کرو (یعنی فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرو)۔

* وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقْرُبُ طَائِفَةً وَنُهْمُ مَعَكَ

(سورہ النساء 102)

جب تو ان میں ہو اور ان کے لئے نماز کھڑی کرو، تو چاہئے کہ ان میں سے ایک
جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو (جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے)۔

﴿وضاحت﴾ جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لئے
تیار کھڑی ہوں اور ایک لمحہ کی بھی غفلت مسلمانوں کے لئے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہو
تو ایسی صورت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائیگی جیسا کہ اس آیت میں اور

احادیث شریفہ میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ جب خوف کی حالت میں نماز جماعت سے ادا کرنے کا حکم ہے تو ان کی حالت میں توبدرجہ اولیٰ فرض نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جائیگی إلَّا يَكُوْنُ شَرْعِيًّا عذْرًا ہو۔

احادیث نبویہ:

* عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِبِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَّتْ أَنْ آمْرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبْ ثُمَّ آمْرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤْذَنَ لَهَا ثُمَّ آمْرَ رَجُلًا فَيَؤْمِنُ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأَحْرِقَ عَلَيْهِمْ بِيُوْتَهُمْ (رواه البخاری - باب وجوب صلاة الجمعة).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لکڑیاں اکھٹی کرنے کا حکم دوں اور ساتھ ہی نماز کے لئے اذان کہنے کا حکم دوں پھر کسی آدمی کو نماز کے لئے لوگوں کا امام مقرر کروں اور خود ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگادوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے (یعنی گھر یا دوکان میں اسکیلے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں)۔

جو حضرات شرعی عذر کے بغیر فرض نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے گھروں کے سلسلہ میں اس ذات کی جس کی ایجاع کے ہم دعویدار ہیں، اور جس کو ہماری ہر تکلیف نہایت گراں گزرتی ہو، جو ہمیشہ ہمارے فائدے کی خواہش رکھتا ہو اور ہم پر نہایت شیق اور مہریاں ہو، یہ خواہش ہے کہ ان کو آگ لگادی جائے۔

* عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّهُعَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اِتَّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ فَقَالَ:

خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبِلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى رَوَاهُ أَبُو دَاوُدْ وَابْنُ حَبَّانَ وَابْنُ مَاجَةَ (الترغيب والترهيب - الترهيب من ترك حضور الجماعة بغير عذر) حضرت عبد الله بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے مسجد کو نہ جائے (بلکہ وہیں پڑھ لے) تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مرض یا خوف۔

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ أَتَيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُوَّدُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُرَخَّصَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ فَرَخَصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاءً فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ:

فَأَجِبْ (رواه مسلم - باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء).

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے: یا رسول اللہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے مسجد میں لائے۔

یہ کہکشاں نے نماز گھر پڑھنے کی رخصت چاہی۔ رسول اکرم ﷺ نے انہیں رخصت دیدی لیکن جب وہ واپس ہونے لگے تو انہیں پھر بلا یا اور پوچھا: کیا تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پھر تو مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھا کرو۔

غور فرمائیں کہ جب اس شخص کو جو نابینا ہے، مسجد تک پہنچانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور گھر بھی مسجد سے دور ہے، نیز گھر سے مسجد تک کارستہ بھی ہموار نہیں (جیسا کہ دوسری احادیث میں مذکور ہے) نبی اکرم ﷺ نے گھر میں فرض نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تو پہنچا اور تندربست کو بغیر شرعی عذر کے کیونکہ گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔

* عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رضي الله عنه عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكُفُرُ وَالنَّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللَّهِ يَنَادِي إِلَى

الصَّلَاةِ فَلَا يُجِبُنَّهُ رواه أحمد والطبراني (الترغيب والترهيب - الترهيب من ترك حضور الجماعة لغير عذر)

حضرت معاذ بن ابي شحنة سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ظلم اور سراسر ظلم اور کفر و نفاق ہے اس شخص کا فعل جو نماز کے لئے اللہ کے منادی (مؤذن) کی آواز نہ اور اس کو قول نہ کرے (عین نماز کو نہ جائے)۔

* عن أبِي الدَّرْدَاءِ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ ثَلَاثَةَ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ وَلَا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا سَتَحْوَذُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ. فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ. فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّبَابُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ رواه احمد وابوداؤد والنسائي وابن خزيمة والحاكم وزاد رزين في جامعه وإن ذنبَ الإنسان الشيطان إذا خلا به أكله (الترغيب والترهيب - الترهيب من ترك حضور الجماعة لغير عذر)

حضرت ابو درداء بنى الشحد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سننا: جس گاؤں یا جگل میں تین آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لئے جماعت کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے، اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔

* عن ابنِ عَمَرَ رضيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواہ مسلم - باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها).

حضرت عبد اللہ بن عمر بن اشجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جماعت کی نماز اکیلی کی نماز سے اجر و ثواب میں متکیس (۲۷) درج زیادہ ہے۔

* عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُقُولُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَكَانَمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ
وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَكَانَمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ (رواه مسلم
– باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة).

حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد
فرماتے ہوئے سا: جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، گویا اس نے آدمی رات
عبادت کی اور جو تمیز کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے لے گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔

صحابہ کے ارشادات:

* عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ
تَعَالَى غَدَّاً مُسْلِمًا ، فَلْيَحْفَظْ عَلَى هُولَاءِ الصَّلَوَاتِ ، حَيْثُ
يُنَادِي بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَّةَ الْهُدَى ، وَإِنَّهُمْ مِنْ
سُنَّةِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصْلِي هَذَا الْمُتَخَلَّفُ
فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَّلْتُمْ
وَلَقَدْ رَأَيْتُمَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مَنَافِقٌ مَعْلُومُ النَّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ
الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهَا ، يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَقَامَ فِي الصَّفَّ
(رواه مسلم – باب صلاة الجماعۃ من سنن الہدی).

حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل
قیامت کے دن اللہ جلن شانہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو وہ ان نمازوں کو اسی جگہ ادا
کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے (یعنی مسجد میں) اس لئے کہ حق تعالیٰ شانہ نے
تمہارے نبی ﷺ کے لئے اسی شینیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر برداشت ہیں، ان ہی میں سے
یہ جماعت کی نمازیں بھی ہیں۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص
پڑھتا ہے تو تم نبی ﷺ کی سنت کو چھوڑنے والے ہو گے اور یہ سمجھ لو کہ اگر تم نبی ﷺ کی
سنت کو چھوڑ دو گے تو گراہ ہو جاؤ گے..... ہم تو اپنا حال یہ دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا

منافق ہوتا وہ تو جماعت سے رہ جاتا (ورنه حضور کے زمانے میں عام منافقوں کو بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی) یا کوئی سخت بیمار ورنہ جو شخص دو آدمیوں کے سہارے سے کھسٹا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی صرف میں کھرا کر دیا جاتا تھا۔

* قالَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَهُ: وَمَنْ جَارٌ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ (رواه احمد في مسنده).

حضرت علی رضي الله عنه فرماتے ہیں مسجد کے پڑوی کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا کہ مسجد کا پڑوی کون ہے؟ تو حضرت علی رضي الله عنه نے فرمایا: جو شخص اذان کی آواز سنے وہ مسجد کا پڑوی ہے۔

* قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَأَنْ تَمَتَّلِي أَذْنُ أَبْنِ آدَمَ رَصَاصًا مَذَابًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النَّدَاءَ وَلَا يُجِيبُ (كتاب الصلاة وحكم تارکها - للشيخ ابن القيم).

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت میں حاضر ہو اس کے کان پھکھے ہوئے سیسے سے بھردئے جائیں یہ بہتر ہے۔

* عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ وَلَا يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجُمُعَةَ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ رواه الترمذی (الترغیب والترہیب - الترهیب من ترك الجمعة لغير عذر).

حضرت عبداللہ بن عباس رضي الله عنهما سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نظیں پڑھتا ہے مگر جماعت اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا (اس کے متعلق کیا حکم ہے) حضرت عبداللہ بن عباس رضي الله عنهما نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ (کو مسلمان ہونے کی وجہ سے سزا بھگت کر جہنم سے نکل جائے)۔

تا خیر سے مسجد پہنچنے پر اجر عظیم سے محرومی

نماز پڑھنے والوں کی اچھی خاصی تعداد مسجدوں میں تا خیر سے پہنچتی ہے وہ اقامت کے وقت یا نماز شروع ہونے کے بعد مسجد آتی ہے، جس سے جماعت کی نماز یا بعض رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ چنانچہ اقامت کے وقت مسجد میں نمازوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے لیکن بعد میں صفوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، حالانکہ اس تا خیر پر ہر ہزار ٹواب سے محروم رہنا پڑتا ہے۔

سکون، اطمینان اور وقار کی کمی: مسجد تا خیر سے پہنچنے پر رکعت کو پانے کے لئے احباب، جو مسجد میں دوڑتے ہیں اس سے نماز میں سکون، اطمینان اور وقار باقی نہیں رہتا ہے حالانکہ نماز کو اطمینان، سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز رکعت پانے کے لئے دوڑنا مکروہ ہے۔

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ، وَلَا تُسْرِعُوا وَمَا أَذْرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتَمُوا (رواه البخاري - باب لا يسعى إلى الصلاة وليلات بالسکينة والوقار).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب اقامت سنو تو پورے وقار، اطمینان اور سکون سے جل کر نماز کے لئے آؤ اور جلدی نہ کرو۔ جتنی نماز پاؤ پڑھو اور جو رہ جائے وہ بعد میں پوری کرو۔

قدموں کی تعداد کی کمی: تا خیر ہونے پر جماعت کی نماز کو پانے کے لئے دوڑنے یا تیز چلنے کی وجہ سے قدموں کی تعداد کم ہو جاتی ہے حالانکہ ہر قدم پر ایک نیکی ملتی

ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔

* عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِّنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خُطْوَاتُهُ إِحْدَاهُمَا تَحْطُطُ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً (رواه مسلم - المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
جو شخص اچھی طرح سے گھر میں وضو کرتا ہے پھر اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض (نماز) کو ادا کرنے کے لئے اللہ کے گھر یعنی مسجد کی طرف چلا ہے تو اس کے ایک قدم پر اسکی ایک نمائی مٹا دی جاتی ہے اور دوسرے قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔

* عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أَدْلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوا اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرَّبَاطُ (رواه مسلم - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره).
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

کیا میں تمہیں ایسے عمل شہتاں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجے بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ضرور تھا یہ۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نا گواری اور مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف کثرت سے قدم انھا اور ایک نماز کے بعد دوسرا نماز کے انتظار میں رہنا۔ یہی حقیقی رباط ہے۔

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله فقال لهم: إله قد بلغني أنكم تريدون أن تنقلوا قرب المسجد؟ قالوا نعم، يا رسول الله! قد أردنا ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة دياركم ، تكتب آثاركم ، دياركم ، تكتب آثاركم (رواه مسلم - باب فضل كثرة الخطأ إلى المساجد).

حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اور گرد پھر زمین خالی پڑی تھی۔ بنو سلمة (جده بنت منورہ کا ایک قبلہ قہاں کے مکانات مسجد سے دور تھے انہوں) نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہی کہیں منتقل ہو جائیں۔ یہ بات نبی اکرم ﷺ تک پہنچی تو نبی اکرم ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا: مجھے خبر طی ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ پیش کہ ہم یہی چاہ رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بنو سلمة وہیں رہو، تمہارے (مسجد تک کے آنے کے) سب قدم لکھے جاتے ہیں۔ وہیں رہو، تمہارے (مسجد تک کے آنے کے) سب قدم لکھے جاتے ہیں۔

فِرْشَتَيْنَ كَاسْتَقْلَانَ سَبْ مَحْرُومَيْنَ مسجد میں پہنچنے کا انتظار کرنے والوں کے لئے فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، مگر تاخیر سے مسجد پہنچنے والے حضرات اس عظیم فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ، يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يَحْذَثَ (رواه مسلم - باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة).

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بندہ

اس وقت تک نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے جب تک وہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں نماز کا انتظار کرتا رہے۔ فرشتے اس کیلئے یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ یا اللہ! اسکی مغفرت فرما اور اس پر حرم فرما۔

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجةً وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهز إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وخط عنده بها خطية حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدهم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمنه ، اللهم اغفر له ، اللهم تب عليه ما لم يبذر فيه وما لم يخذل فيه .

(رواه مسلم - باب فضيل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی ہو اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو پھیس درجہ زیادہ ہوتی ہے اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجہ تک پہنچا دیتا ہے پھر مسجد کی طرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اسکیں شامل نہیں ہوتا تو تقدیم بھی رکھتا ہے اسکی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطاط معاف ہو جاتی ہے یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے، اور پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کیلئے یہ دعا کرتے رہتے ہیں: یا اللہ! اسکی مغفرت فرما، اس پر حرم فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، جب تک وہ مسجد میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور باوضو رہے۔

پہلی صفت سے محرومی: تاخیر کی وجہ سے عموماً پہلی صفت میں اور صفت کی دلائیں

جانب جگہ بھی ملتی، حالانکہ احادیث میں پہلی صفت میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلتیں وار و ہوئی ہیں *
 عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفَّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهِمُوا (رواه البخاری۔ باب الاستهمام في الأذان)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صفت کا ثواب معلوم ہو جاتا، اور انھیں اذان اور پہلی صفت قرعہ اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرعہ اندازی کرتے۔

* عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرٌ صَفُوفُ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا۔ (رواه مسلم۔ تسویہ الصفوں و اقامتها)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مردوں کی صفوں میں سب سے زیادہ ثواب پہلی صفت کا ہے اور سب سے کم ثواب آخری صفت کا ہے۔

* عنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّ فِي أَصْحَابِهِ تَأْخِرًا فَقَالَ: تَقَدَّمُوا فَانْتَهُوا بِي وَلَيَأْتِمَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأْخِرُونَ حَتَّى يُؤْخَرُهُمُ اللَّهُ (رواه مسلم۔ باب تسویہ الصفوں و اقامتها).

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بعض صحابہ میں سُتی اور تاخیر کے آثار دیکھے تو فرمایا: آگے بڑھو اور میری کمل اقتداء کروتا کہ تمہارے بعد والے تمہاری کمل اقتداء کریں، جب بھی کوئی قوم پیچھے ہتی ہے اللہ اسے پیچھے ہٹا دیتا ہے۔

* عنْ عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ

وَمَلِائِكَةٌ يُصَلِّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ (رواه أبو داود - باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف / وابن ماجة - باب فضل ميمنة الصف).

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
اللہ تعالیٰ صفوں میں دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور
فرشتے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔

صحابہ کرامؓ کو جب معلوم ہوا کہ صف کے دائیں جانب کی فضیلت بائیں کے مقابلہ میں زیادہ ہے تو سب کوشق ہوا کہ اسی طرف کھڑے ہوں، جسکی وجہ سے بائیں طرف کی جگہ خالی رہنے لگی، تو اس موقع پر نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص مسجد میں صف کے دائیں جانب اس لئے کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ کم کھڑے ہوتے ہیں تو اسے دو اجر ملتے ہیں۔
لکھیر اولیٰ کا فرشتہ یونا: تاخیر کی وجہ سے عموماً تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی ہے حالانکہ

احادیث میں تکبیر اولیٰ (پہلی تکبیر) کو نماز کا پچھوڑ قرار دیا گیا ہے۔

* * *

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
صَلَّى اللهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَ الْأُولَى كَتُبَتْ
لَهُ بَرَائَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَائَةٌ مِنَ النَّفَاقِ (رواه الترمذی - باب
ما جاء من فضل التكبيرة الأولى).

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
جو شخص چالیس دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو دو
پرواں ملتے ہیں: ایک جہنم سے بری ہونے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔

* * *

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ
صَفْوَةٌ وَصَفْوَةُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَ الْأُولَى (رواه البزار).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
ہر چیز کا ایک پنجوڑ (احصل) ہوتا ہے، اور نماز کا نجھڑ پنجم برابر اولی ہے۔

* عنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ
شَيْءٍ أَنْفَةً وَإِنَّ أَنْفَةَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى فَحَافِظُوا عَلَيْهَا (رواہ
البزار).

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر چیز
کی ایک ناک ہوتی ہے اور نماز کی ناک بکبیر اولی ہے۔

جماعات کا فرقہ بن نباتہ: تاخیر بعض مرتبہ جماعت ہی کے چھوٹے کا سبب بن جاتی ہے
حالانکہ جماعت سے نماز ادا کرنے کی بڑی اہمیت ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے فرض نماز جماعت
کے ساتھ ادا کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔

* عنْ أَبْنِ عُمَرَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ
الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواہ مسلم -
باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها).

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
جماعت کی نمازا کیلئے کی نماز سے اجر و ثواب میں ستائیں درجہ زیادہ ہے۔

* عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَمْتَنَعْ مِنْ إِتَّبَاعِهِ عَذْرٌ ، قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ
فَقَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى رواہ
ابوداؤد وابن حبان فی صحيحہ وابن ماجہ بنحوه (الترغیب والترہیب - الترہیب من
ترك حضور الجماعة بغیر عذر)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اذان کی آواز نے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے (وہیں پڑھ لے) تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ مرض یا خوف۔

تاخیر کی وجہ سے فرض نماز سے قبل، سنن پھوٹ جاتی ہیں،
حالانکہ احادیث میں فرض نماز سے پہلے سنن پھوٹ کی بڑی فضیلیتیں وارد ہوئی ہیں جیسا کہ
سنن و نوافل کے بیان میں تفصیل سے مذکور ہے۔

تاخیر کی وجہ سے دعا کے قبول
ہونے کا خاص وقت فوت ہو جاتا ہے، اور وہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذْانِ وَالْإِقَامَةِ (رواه الترمذی) - باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔

یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت دعا کے قبول ہونے کا خاص وقت ہے۔
اعمال حسن سے محرومیت وقت سے پہلے مسجد ہو چکر اعمال خیر مثلاً نوافل، ذکر،
دعا اور حلاوستی قرآن میں مشغولیت بہت آسان ہو جاتی ہے نیز جیسا کہ احادیث میں گزر
چکا ہے کہ نماز کے انتظار میں صرف بیٹھنا بھی اجڑ عظیم کا باعث ہے مگر اقامت کے بعد مسجد
تشریف لانے والے حضرات ان اعمال خیر سے محروم رہتے ہیں۔

جمع کی نماز کے لئے خطبہ شروع ہونے کے بعد
مسجد میں وہنچنے والے حضرات جمع کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔

*
بِاَيْمَانِهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوَدِّي لِلصَّلَاةِ وَنَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(سورة الجمعة ۹)

اے ایمان والوا جب نمازِ جمعہ کے لئے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر (نماز)
کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ تمہارے حق میں بہت عیٰ بہتر ہے، اگر تم
جانستہ ہو۔

وضاحت: دوڑنے سے مراد پورے اہتمام اور مستعدی کے ساتھ جانا ہے، بھاگنا مراد نہیں
کیونکہ احادیث میں نماز کے لئے وقار اور سکون کے ساتھ آنے کی تاکید کی گئی ہے۔
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى
فَكَانَمَا قَرَبَ بَذَنَةَ، وَمَنِ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَمَا قَرَبَ
بَقَرَةً، وَمَنِ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْثَالِثَةِ فَكَانَمَا قَرَبَ كَبَشًا، وَمَنِ رَاحَ
فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَمَا قَرَبَ دَجَاجَةً، وَمَنِ رَاحَ فِي السَّاعَةِ
الْخَامِسَةِ فَكَانَمَا قَرَبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ إِلَيْهِمُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ
يَسْتَمْعُونَ الذِكْرَ (رواه البخاری - باب فضل الجمعة / ومسلم - باب الطيب
والسوالك يوم الجمعة).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح غسل کرتا ہے (اہتمام کے ساتھ) پھر پہلی فرصت
میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لئے اونٹی قربان کی۔ جو دوسرا فرست میں
مسجد جاتا ہے گویا اس نے گائے قربان کی۔ جو تیسرا فرست میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے
مینڈھا قربان کیا۔ جو چوتھی فرست میں جاتا ہے گویا اس نے مرغی قربان کی۔ جو پانچیس فرست

میں جاتا ہے گویا اس نے اٹھے سے خدا کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر جب امام خطبہ کے لئے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِّنْ أَنْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةً يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَّا الصُّحْفَ يَسْتَمِعُونَ إِلَذْكُرَ وَمَثَلُ الْمَهْجَرِ كَمَثَلِ يَهُدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يَهُدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يَهُدِي الْكَبَشَ ثُمَّ كَالَّذِي يَهُدِي الدَّجَاجَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يَهُدِي الْبَيْضَةَ (رواه مسلم - باب فضل التهجير يوم الجمعة).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں (ای طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں)۔ جب امام خطبہ دینے کے لئے آتا ہے تو فرشتے اپنے رجڑ جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں، پیسٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جو جمڈ کی نماز کے لئے سویرے جاتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا اثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا اثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو مینڈھا، اس کے بعد آنے والے کو مرغی، اس کے بعد آنے والے کو اغا صدقہ کرنے کا اثواب ملتا ہے۔



مسجد کی آبادی

زمین کے تمام حصوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب، مسجدیں ہیں، یہ آسمان والوں کے لئے ایسے ہی چکتی ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لئے آسمان کے ستارے چکتے ہیں۔ ان مساجد کو نماز، ذکر و تلاوت، دعوت و تبلیغ اور دیگر عبادتوں سے آباد رکھنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ مساجد کو آباد رکھنے والوں کے لئے بے شمار فضیلیتیں قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔

آیات قرآنیہ:

* * *

إِنَّمَا يَحْمُرُ مَسَاجِدُ اللَّهِ هَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَالْآخِرَةِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَنْفَشْ إِلَّا اللَّهُ ، فَخَسِئَ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا وَنَّ
الْمُهْنَدِدِينَ (سورۃ النوبۃ ۱۸)

اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور نمازوں کے پابند ہوں اور زکاۃ دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرستے ہوں، تو قع ہے کہ ہیں لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

* * *

فِي بَيْوَتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَمَ وَيَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ ، يُسَبِّبُمُ اللَّهُ
فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَاللَّطَّالِ . وَجَالَ لَا تَلْهِيْنَهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْمَ عنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِبْنَاءِ الزَّكَاةِ ، يَخَافُونَ يَوْمًا تَنَقَّلُبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْحَارُ (سورۃ النور ۳۶ - ۳۷)

ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں صحیح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت

اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکاۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے۔ اس دن یعنی قیامت سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں اللہ پلٹ ہو جائیں گی۔

(ان گھروں سے مراد مساجد ہیں، اور ان کا ادب یہ ہے کہ ان میں جنابت کی حالت میں داخل نہ ہوا جائے، کوئی ناپاک چیز داخل نہ کی جائے، شور نہ چایا جائے، دنیا کے کام اور دنیا کی باقیت نہ کی جائیں، بدبودار چیز کھا کر نہ جایا جائے)۔

احادیث نبویہ:

* عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحَبُّ
الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا
(رواہ مسلم - باب فضل الجلوس فی مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محظوظ مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند جگہیں بازار ہیں۔

* عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: الْمَسَاجِدُ بَيْوَاتُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ
تُضَيِّعُهُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضَيِّعُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ
(رواہ الطبرانی ورجالہ موثقون (جمع الزوائد - باب فضل المساجد).

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ آسمان والوں کے لئے ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لئے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔

* عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:
مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
(رواہ ابن حیان - ذکر بناء اللہ بیتًا فی الجنۃ لمن بنی مسجدًا فی الدنیا)

حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سن: جس نے کوئی مسجد بنائی جسمیں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔

* * *

عَنْ بُرِيَّةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَشِّرْ
الْمَشَائِينَ فِي الظُّلُمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه
ابوداؤد - باب ماجاء في المشي إلى الصلاة في الظلم / والترمذی - باب ما جاء في
فضل العشاء والفجر في جماعة)

حضرت بریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو لوگ اندر ہر دوں میں بکثرت مسجدوں کو جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دیجئے۔

* * *

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى
الْمَسَاجِدِ أَوْ رَاحَ ، أَعَدَ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلُّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ
(رواه البخاری - باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح / ومسلم - باب المشي إلى
الصلاۃ تمحی به الخطایا)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص صبح اور شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ضیافت (مہمان نوازی) کا انتظام فرماتے ہیں، جتنی مرتبہ صبح یا شام مسجد جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے ضیافت (مہمان نوازی) کا انتظام فرماتے ہیں۔

* * *

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهُدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ ، قَالَ اللَّهُ

َتَعَالَى إِنَّمَا يَحْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

رواه الترمذی واللفظ له وابن ماجہ وابن خزیمة وابن حبان فی صحیحہما والحاکم
(الترغیب والترھیب - کتاب الصلاۃ - الترغیب فی لزوم المساجد والجتوس فیها).

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جب تم کسی کو بکثرت مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (ترجمہ): مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور

آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: الْمَسْجِدُ بَيْتٌ كُلُّ تَقِيٍّ، وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ

بَيْتَهُ بِالرُّوحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصَّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ

اللَّهِ إِلَى الْجَنَّةِ رواه الطبراني فی الكبير والأوسط والبزار وقال إسناده حسن ،

ورجال البزار كلهم رجال الصحيح (مجموع الزوائد - باب لزوم المسجد).

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد

فرماتے ہوئے سنًا: مسجد ہر تھی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ جس کا گھر مسجد ہو

(یعنی مسجدوں سے خصوصی تعلق ہو) اسے راحت دوں گا، اس پر خصوصی رحمت نازل کروں گا،

پل صراط کا راستہ آسان کروں گا، اپنی رضا فیضیب کروں گا اور اسے جنت عطا کروں گا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَسَاجِدَ

أُوتَادًا ، الْمَلَائِكَةُ جُلْسَاوُهُمْ ، إِنْ غَابُوا يَفْتَدِيُونَهُمْ ، وَإِنْ مَرِضُوا

عَادُوهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعْنَوْهُمْ . وَقَالَ مَنْ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

*

جَلِيسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلَاثٍ خَصَالٍ: أَخْ مُسْتَفَادٌ، أَوْ كَلْمَةً مُحْكَمَةً، أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً (رواه احمد - ج 2 صفحہ 418).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو لوگ کثرت سے مسجدوں میں جمع رہتے ہیں وہ مسجدوں کے کھونٹے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ مسجدوں میں موجود نہ ہوں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں۔ اگر وہ یہاں ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی ضرورت کے لئے جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: مسجد میں بیٹھنے والا تین فائدوں میں سے ایک فائدہ حاصل کرتا ہے کہ بھائی سے ملاقات ہوتی ہے جس سے کوئی دینی فائدہ ہو جاتا ہے یا کوئی حکمت کی بات سننے کو مل جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جاتی ہے جس کا ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے۔

وضاحت مسجدوں میں جا کر فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت صرف مردوں کے لئے ہے، عورتوں کے لئے اپنے گروں ہی میں نماز ادا کرنا افضل ہے بلکہ موجودہ فتنوں کے دور میں تو عورتوں کے لئے گروں میں ہی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔

- حضرت عائشہ صدیقۃؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: عورتوں نے زیب وزینت اور نمائش جمال کا جو طریقہ ایجاد کر لیا ہے اگر رسول اللہ ﷺ اسے ملاحظہ فرمائیتے تو انہیں مسجدوں سے ضرور روک دیتے، جیسے کے نبی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھیں۔ (بخاری۔ باب انتظار الناس قیام الامام العالم)

- حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورت کی نماز اپنے گر کے بعد گھر کے گھن کی نماز سے بہتر ہے، اور اس کی نماز گھر کی چھوٹی کوٹھری میں، گھر کی نماز سے بہتر ہے۔ (مطلوب یہ ہے کہ عورت جس قدر پوشیدہ ہو کر نماز ادا کرے گی اسی اعتبار سے زیادہ مختیٰ ثواب ہوگی)۔ (ابو داؤد۔ باب التشدید فی خروج النساء الی المساجد)

- ام المؤمنین امام سلمہؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: عورت کی اپنی کوٹھری کی نماز بہتر ہے اپنے بڑے کمرے کی نماز سے، اور اس کے بڑے کمرے کی نماز بہتر ہے گھر کے گھن کی نماز سے، اور اس کے گھن کی نماز، مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ (رواه الطبرانی فی الاوسط باسناد جيد)

خُشُوع و خُضُوع وَالنِّمَاز

قیام، قرآن کی تلاوت، رکوع، سجدہ اور قعدہ وغیرہ نماز کا جسم ہیں اور اسکی روح خُشُوع و خُضُوع ہے۔ چونکہ جسم بغیر روح کے بے حیثیت ہوتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ نمازوں کو اس طرح ادا کریں کہ جسم کے تمام اعضاء کی یکسوئی کے ساتھ دل کی یکسوئی بھی ہو، تاکہ ہماری نماز میں روح یعنی خُشُوع و خُضُوع کے ساتھ ادا ہوں۔ دل کی یکسوئی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں پر قصد خیالات و ساویں سے دل کو محفوظ رکھیں اور اللہ کی عظمت و جلال کا نقش اپنے دل پر بٹھانے کی کوشش کریں۔ جسم کے اعضاء کی یکسوئی یہ ہے کہ ادھر ادھرنہ دیکھیں، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگیں بلکہ خوف و خشیت اور عاجزی و فروتنی کی اسی کیفیت طاری کریں جیسے عام طور پر بادشاہ کے سامنے ہوتی ہے۔

قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں نمازوں کو خُشُوع و خُضُوع اور اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کرنے کی پار بار تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ اصل نمازوں ہی ہے جو خُشُوع و خُضُوع اور اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کی جائے، اور اسی ہی نماز پر اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتے ہیں جیسا کہ مندرجہ ذیل قرآن کریم کی آیات اور احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے۔

آمات قرآنیہ:

* **فَذَلِيلُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ** (سورہ المؤمنون)

یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں میں خُشُوع ہے۔

* **وَاسْتَحْيِنُوا يَا الصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ**
(سورہ البقرہ 45)

صبر اور نماز کے ذریعہ مدح احتیاط کیا کرو۔ پیشک وہ نماز بہت دشوار ہے مگر جن کے

دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔

هَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَقُوْمُوا إِلَيْهِ قَانِتِينَ

(سورہ البقرہ 238)

تمام نمازوں کی خاص طور پر درمیان والی نماز (یعنی عصر کی) پابندی کیا کرو اور اللہ کے سامنے با ادب کھڑے رہا کرو۔

احادیث ثبویہ:

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تَسْتَرِّعُوا وَمَا أَدْرِكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتْقُوا (رواه البخاري - باب لا يسعى إلى الصلاة وليلات بالسکينة والوقار).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
جب اقتضت سن تو پورے وقار، اطمینان اور سکون سے جل کر نماز کے لئے آؤ اور جلدی نہ کرو۔
جتنی نماز پاؤ پڑھو اور جو رہ جائے وہ بعد میں پوری کرلو۔

* عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ دَخَلَ الْمَسْجَدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ فَرَدَّ ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . ثَلَاثًا ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعْدَهُ بِالْحَقِّ مَا أَحْسَنْ غَيْرَهُ فَعَلَمْنِي . فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ إِقْرَا مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَأْكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ

ساجِداً ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا ، وَأَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ

كُلُّهَا (رواه البخاري - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف

لائے۔ ایک اور صاحب بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی پھر (رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے

اور) رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا۔ آپ ﷺ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: جاؤ نماز پڑھو کیونکہ

تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی ویسے ہی نماز پڑھ کر آئے، پھر رسول

الله ﷺ کو آکر سلام کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔

اس طرح تین مرتبہ ہوا۔ ان صاحب نے عرض کیا: اُس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو

حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز سکھائیے۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر قرآن مجید میں

سے جو کچھ پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ پھر رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے

کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سجدہ میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدہ

سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو۔ یہ سب کام اپنی پوری نماز میں کرو۔

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: مَا مِنْ إِمْرِيٍ مُسْلِمٌ تَخْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ ، فَيَحْسِنُ

وَضُؤُتُهَا وَخُشُوعُهَا وَرُكُوعُهَا ، إِلَّا كَانَتْ كَفَارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ

الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً ، وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ (رواه مسلم - باب

فضل الوضوء والصلوة عقبه).

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ

ارشاد فرماتے ہوئے سن: جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اسکے لئے اچھی طرح وضو

کرتا ہے پھر خوب خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جسمیں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے تو جب تک کوئی کبیرہ (بڑا) گناہ نہ کرے یہ نماز اس کے لئے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور یہ فضیلت ہمیشہ کے لئے ہے۔

* عنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهْنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحِسِّنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. (رواه أبو داود - باب كراهة الوضوء وحديث النفس في الصلاة).

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر دو رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ دل نماز کی طرف متوجہ رہے اور اعضاء میں بھی سکون ہو تو اسکے لئے یقیناً جنت واجب ہو جاتی ہے۔

* عنْ أَبِي ذِرَّ رضي الله عنه قالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ أَنْصَرَفَ عَنْهُ (رواه النسائي - باب التشديد في الالتفات في الصلاة).

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ بندہ کی طرف اس وقت تک توجہ فرماتے ہیں جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ جب بندہ اپنی توجہ نماز سے ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔

* عنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْوَأُ النَّاسِ سَرَقَةُ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ ؟ قَالَ: لَا يَتِمُ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا

رواه احمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاکم وقال صحيح الاسناد
(الترغیب والترہیب - الترہیب من عدم إتمام الرکوع والسجود وإقامة الصلب بینہما)

حضرت ابو قوارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرنے سماں بنے عرض کیا: یا رسول اللہ! نماز میں کس طرح چوری کرے گا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے ادا کرنا۔ (غرض، اطمینان و سکون کے بغیر نماز ادا کرنے کو نبی اکرم ﷺ نے بدترین چوری قرار دیا)۔

* عنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفَ وَمَا كَتَبَ لَهُ إِلاْ عَشْرُ صَلَاتَهُ، تُسْعَهَا، ثُمَّنَهَا، سُبْعَهَا، سُدْسَهَا، خَمْسَهَا، رُبْعَهَا، ثُلُثَهَا، نِصْفَهَا رواه أبو داود والنسانی وابن حبان في صحيحه بنحو (الترغیب والترہیب - الترہیب من عدم إتمام الرکوع والسجود وإقامة الصلب بینہما)

حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سن: آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لئے ثواب کا دسوال حصہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح بعض کے لئے نواح حصہ، بعض کے لئے آٹھواں، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔

* عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم قالَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقْيِمُ صَلَبَةً بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ رواه احمد بایسناد جید (الترغیب والترہیب - الترہیب من عدم إتمام الرکوع والسجود وإقامة الصلب بینہما).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جو رکوع اور سجدہ کے درمیان یعنی قومہ میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے۔

* عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه رأى رَجُلًا لَا يَتَمَ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ رضي الله عنه: مَا صَلَيْتَ ، قَالَ وَاحْبَسْتَهُ ، قَالَ: وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ

مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم (رواه البخاری - باب إذا لم يتم السجود).

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع اور سجدہ کو پوری طرح سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہو گیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نماز نہیں پڑھی۔ اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو محمد ﷺ کے دین کے بغیر مرے گا۔

* عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رضي الله عنه قالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ مَا لِي أَرَأْكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شَمَسٍ ، أَسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ (رواه مسلم - باب الأمر بالسكون في الصلاة).

حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے پاس آئے اور فرمائے گئے کہ میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ نماز میں گھوڑے کی دم کی طرح اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ نماز میں سکون اختیار کرو۔

* عَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: أَمْرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ يَسْنَدْ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءِ وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثُوبًا (رواه البخاری - باب السجود على سبعة اعظم / ومسلم - باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والتوب).


حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سات

اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور نیز اس بات کا حکم فرمایا کہ نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمجھیں۔

* عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الفرائب، واقتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبي ماجة وأبي خزيمة وأبي حبان في صحيحهما (الترغيب والترهيب - الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود).

حضرت عبد الرحمن رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا کہ تو نے کی طرح ٹھوکے مارنے سے (یعنی جلدی جلدی نماز پڑھنے سے) اور درندہ کی کھال بچھا کر نماز پڑھنے سے اور اس سے کہ کوئی شخص مسجد میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر کر لے جیسے کہ اونٹ (اپنے اصلبل) میں ایک خاص جگہ مقرر کر لیتا ہے۔

* عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أول علم يرقع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجالاً خاشعاً (رواه الترمذی - باب ما جاء في ذهاب العلم).
حضرت ابو درداء رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس جیز کا علم لوگوں سے اٹھایا جائیگا وہ خشوع کا علم ہے۔ عذریب مسجد میں بہت سے لوگ آئیں گے، تم ان میں ایک شخص کو بھی خشوع والا نہ پاؤ گے۔



نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا طریقہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پاؤ از ہوا خارج کرتا ہوا پیچھے پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ جب اقامت کی جاتی ہے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسا ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے یہ بات یاد کرو اور یہ بات یاد کرو۔ ایسی ایسی باشیں یاد دلاتا ہے جو باشیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھیں یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ تھی رکعتیں ہوئیں۔ (مسلم - باب فضل الاذان)

شیطان کی چہلی کوش، مسلمان کو نماز سے ہی دور رکھنا ہے کیونکہ نماز اللہ کی اطاعت کے تمام کاموں میں سب سے افضل عمل ہے۔ لیکن جب اللہ کا بندہ شیطان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب عمل نماز کو شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ نماز کی روح یعنی خشوع و خضوع سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ وہ نماز میں مختلف دنیاوی امور کو یاد دلا کر نماز کی روح سے غافل کرتا ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ ایسے اسباب اختیار کرے کہ جن سے نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوں۔

قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے چند اسباب ذکر کئے جا رہے ہیں۔ اگر ان مذکورہ اسباب کو اختیار کیا جائیگا تو انشاء اللہ شیاطین سے حفاظت رہے گی اور ہماری نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوں گی۔

نماز شروع کرنے سے پہلے

۱) جب موذن کی آذان کا ان میں پڑے تو دنیاوی مشاغل کو ترک کر کے اذان کے کلمات کا

جواب دیں اور اذان کے اختتام پر نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھکر اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔

۲) پیشاب وغیرہ کی ضروریات سے فارغ ہو جائیں کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

(اَصْلَةٌ بِخَضْرَةِ الطُّفَّاعِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَثُانَ - صحیح مسلم)

کھانے کی موجودگی میں (اگر واقعی بھوک لگی ہو) نماز نہ پڑھی جائے اور نہ ہی اس حالت میں

جب پیشاب پاکخانہ کا شدید تقاضہ ہو۔

۳) بسم اللہ پڑھکر سنت کے مطابق اس لقین کے ساتھ وضو کریں کہ ہر عضو سے آخری قطرے کے گرنے کے ساتھ اس عضو کے ذریعہ کئے جانے والے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور وضو کی وجہ سے اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے جن سے تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد ﷺ اپنے امت کے افراد کی شناخت فرمائیں گے۔

۴) صاف سترہ لباس پہن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: (يَا أَيُّهُمْ نَّبِيٌّ أَتَمْ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) اے آدم کی اولاد! ہر نماز کے وقت ایسا لباس زندپ تن کر لیا کرو جسمیں ستر پوشی کے ساتھ زیبائش بھی ہو (سورہ الاعراف ۳۱)۔ نیز نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے (مسلم)۔

﴿وضاحت﴾ ٹک لباس ہرگز استعمال نہ کریں۔ نیز مرد حضرات پاچ ماہہ یا کوئی دوسرا لباس ٹھنڈوں سے نیچے نہ پہنیں، احادیث میں ٹھنڈوں سے یچھ پاچ ماہہ وغیرہ پہننے والوں کے لئے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔

۵) جو چیزیں نماز میں اللہ کی یاد سے غافل کریں، ان کو نماز سے قبل ہی دور کر دیں۔

۶) اپنی وسعت کے مطابق ختح سردی اور سخت گرنی سے بچاؤ کے اسباب اختیار کریں۔

۷) شور و غل کی چکر نماز پڑھنے سے حتی الامکان بچیں۔

﴿وضاحت﴾ ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ مسجد میں جماعت کی نماز کے وقت اپنی ڈوکان، کاروبار اور

- فیکٹری وغیرہ، خاصکر آواز کرنے والی مشینوں کو بند کر دے تاکہ سکون کے ساتھ فرض نماز ادا کی جاسکے۔
- ۸) مرد حضرات فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجدوں میں اور مستورات گھر میں ادا کریں۔
- ۹) صرف حلال روزی پر اکتفا کریں اگرچہ بظاہر کم ہی کیوں نہ ہو۔
- ۱۰) نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا میں کرتے رہیں۔

نماز شروع کرنے کے بعد:

- ۱) نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنی عابزی و فروقی اور اللہ جل شانہ کی بڑائی، عظمت اور علوی شان کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر زبان سے اللہ اکبر کہیں، دل سے یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے اور وہی جی لگانے کے لائق ہے اس کے علاوہ ساری دنیا حقیقت اور چھوٹی ہے، اور دنیا سے بے تعلق ہو کر اپنی تمام تر توجہ صرف اسی ذات کی طرف کریں جس نے ہمیں ایک ناپاک قطرے سے پیدا فرمائی خوبصورت انسان بنادیا اور مرنے کے بعد اسی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی اس دنیاوی زندگی کا حساب دیتا ہے۔
- ۲) شاہ، سورہ فاتحہ، سورہ رکوع و سجده کی تسبیحات، جلسہ و قومہ کی دعائیں، الحیات، نبی اکرم ﷺ پر درود اور دعاوں وغیرہ کو سمجھ کر اور غور و فکر کرتے ہوئے اطمینان کے اطمینان پر ڈھینیں، اگر تدبیر و تکلف نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا معلوم ہو کہ نماز کے کس رکن میں ہیں اور کیا پڑھر ہے ہیں۔
- ۳) اس یقین کے ساتھ نماز پر ڈھینیں کہ نماز میں اللہ جل شانہ سے مناجات ہوتی ہے جیسا کہ حضرت انسؓ کی حدیث میں اُگزرا۔ نیز دوسری حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آیت کے اختتام پر بندہ سے مخاطب ہوتا ہے۔
- ۴) اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نیز بالوں اور کپڑوں کو سوارنے میں شکریں۔
- ۵) سجدہ کے وقت یہ یقین ہو کہ میں اس وقت اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوں جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بندہ نماز کے دوران سجدہ کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ (مسلم)

- ۶) نماز کے تمام اركان و اعمال کو اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کریں۔
- ۷) نبی اکرم ﷺ کے طریقے کے مطابق ہی نماز ادا کریں۔
- ۸) نماز میں خشوع و خضوع کی کوشش کے باوجود اگر بلا ارادہ دھیان کی اور طرف چلا جائے تو خیال آتے ہی فوراً نماز کی طرف توجہ کریں۔ اس طرح بلا ارادہ کسی طرف دھیان چلا جانا نماز میں نقصان وہ نہیں ہے (انشاء اللہ)۔

﴿وَضَاحَتْ﴾ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لئے کثرت سے اللہ کے ذکر کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے اس لئے صبح و شام پابندی سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں کیونکہ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے نیز دل کو گناہوں کے زنگ سے صاف کرتا ہے۔

نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے، اور نماز کی قبولیت کے لئے سب

سے اہم اور بنیادی شرط: اخلاص ہے کیونکہ اعمال کی قبولیت کا انحصار نیت اور ارادہ پر ہوتا ہے جیسا کہ بخاری شریف کی ہمیں حدیث میں ہے: اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی..... لہذا نماز کی ادائیگی سے خواہ فرض ہو یا لش صرف اللہ جمل شانہ کی رضامندی مطلوب ہو۔ دوسروں کو دکھانے کے لئے نماز نہ پڑھیں کیونکہ دوسروں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھنے کو احادیث میں قتنه و جال سے بھی بڑا فتنہ اور شرک قرار دیا ہے۔

☆ حضرت ابو سعید خدريؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مجع دجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کر دوں؟ ہم نے عرض کیا: ضرور۔ یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: شرک ختنی دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لئے کھڑا ہو اور نماز کو اس لئے لمبا کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ (ابن ماجہ - باب الریاء والسمعا)

☆ حضرت شداد بن اوسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا..... (مسند احمد - ج ۲، ص ۱۲۵)

قرآن کریم میں مؤمنین کی صفات اور نہماز

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی صفات میں سے نماز کی پابندی کرنے

کو خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ جن میں سے بعض آیات مندرجہ ذیل ہیں:

* * *

**وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَخْضُهُمْ أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ يَا مُرْوُنَ يَا لِلْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقْبِلُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطَهِّرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ** (سورہ التوبہ 71)

مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے (مدوگار و معاون اور) دوست ہیں۔ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجالاتے ہیں، زکاۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔

* * *

**الثَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِلُونَ الرَّاكِبُونَ السَّاجِدُونَ
الآمِرُونَ يَا لِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِرُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحَدُودِ اللَّهِ
وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ** (سورہ التوبہ 112)

وہ (ایمان والے) ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حج کرنے والے، روزہ رکھنے والے (یا راہ حق میں سفر کرنے والے) رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مؤمنوں کو آپ خوبخبری سنادیجھے۔

* * *

**إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ الَّذِينَ
يَقْبِلُونَ الصَّلَاةَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ هَقَاءَ
لَهُمْ دَرَجَاتٌ حِنْدَهُ وَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ** (سورہ الأنفال 2-4)

بس ایمان والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب
ڈرجاتے ہیں جو کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں بھی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔
ان کے لئے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔

وَالَّذِينَ يَؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَؤْمِنُونَ يَهُ وَهُمْ عَلَىٰ حَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ

(سورہ الانعام 92)

اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور
وہ اپنی نماز کی پابندی رکھتے ہیں۔

* **قَدْ أَفْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي حَلَاتِهِمْ خَاطِهُونَ** (سورہ المؤمنون ۱)

یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو انی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔

* **قُلْ لِعِبَادِيِّ الَّذِينَ آمَنُوا يَقِيمُوا الصَّلَاةَ** (سورہ ابراہیم ۳۱)

میرے ان بندوں سے کہد تجھے جو ایمان لائے ہیں کہ نمازوں کو قائم رکھیں۔

* **الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ أَفَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَةَ وَأَمْرُوا**

بِالْمَحْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَلَّهِ عَاقِبَةُ الْأَمْوَالِ (سورہ الحج ۴۱)

یہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جادیں تو یہ پوری پابندی سے
نمازیں قائم کریں اور زکا تمیں دیں اور ابھی کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع
کریں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

* **لَكِنَ الرَّاسِفُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يَؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ**

إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقْيَمُونَ الصَّلَاةَ أَوْلَئِكَ سَنُّوْتِبِيهِمْ

أَجْرًا عَظِيمًا (سورہ النساء ۱۶۲)

لیکن ان میں سے (الل کتاب میں سے) جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان

والے ہیں اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف آتا را گیا اور جو آپ سے پہلے آتا را گیا اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں..... یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔

* وَبِإِيمَانِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيِّنُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدًا وَقَيْبَامًا (سورة الفرقان 63-64)

رحمٰن کے (چے) بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی (عاجزی) کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہدیتے ہیں کہ سلام ہے۔ اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے سبر کے بدے جنت میں بالاخانے دئے جائیں گے۔

* إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُنَوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (سورة المائدۃ ۵۵)

(مسلمانو) تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکاۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔

نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہی قرآن کریم کی ہدایات سے فیضاب ہوتے ہیں: ویسے تو اللہ کی کتاب تمام ہی انسانوں کی ہدایت وہنمائی کے لئے نازل ہوئی ہے مگر اس چشمہ فیض سے سیراب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں خاصکر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے:

* **ذلِكَ الْكِتَابُ، لَا رَيْبَ بِفِيهِ، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ أَوْلَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ وَبِهِمْ
وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** (سورة البقرة ٢-٥)

اس کتاب میں کوئی نہیں، پر ہیز گاروں کو راہ دکھانے والی ہے جو کہ غیب پر
ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں..... یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے
ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاج و فجات پانے والے ہیں۔

* **فَلَكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يُقْبِلُونَ الصَّلَاةَ وَبَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ** (سورة النمل ٣-١)

یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے
لئے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاۃ ادا کرتے ہیں۔

* **فَلَكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمَكِيمِ، هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُذْسِنِينَ الَّذِينَ
يُقْبِلُونَ الصَّلَاةَ وَبَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ** (سورة لقمان ٤-٣)

یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکو کاروں کے لئے رہبر اور (سراسر)
رحمت ہے جو کہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکاۃ دیتے ہیں۔

* **إِنَّمَا تُنْهَا رُدُّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِيِّ وَأَقْتَاهُوا الصَّلَاةَ** (سورة الناطر ١٨)

(اے نبی) تم صرف انھیں کہا گا کہ سکتے ہو جو عالمہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے
ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے ڈرانے سے وہی اپنا رویہ درست کر کے
لئے اٹھائیگا جو خدا سے دن دیکھے ڈرتا ہو اور نمازوں کی پابندی کرتا ہو۔

فَوَضَاعَتْ (اے نبی) ان آیات میں اقامۃ الصلاۃ سے مراد پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے
ورنہ نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے۔

نماز اور انپیاء کرام قرآن میں

نماز اللہ جل شانہ کے ہاں ایسا محبوب اور ہم تم بالشان عمل ہے کہ اس کی فرضیت صرف امت محمدیہ ہی کے لئے نہیں بلکہ پہلی امتوں کے لئے بھی نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ نیز اللہ جل شانہ نے بے شمار فرشتوں کی تخلیق صرف اسی لئے کی ہے کہ وہ نماز کے دو اہم رکن: رکوع اور سجدہ کی حالت میں قیامت تک رہیں۔

غرض جس طرح قرآن کریم میں نبی اکرم ﷺ کا ذکر نماز کے تعلق سے ملتا ہے، اسی طرح پہلے انبیاء کرام کا ذکر بھی کثرت سے موجود ہے، بعض آیات کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے:



* * *

**وَلَقَدْ نَهَلْمُ أَنَّكَ بِيَحْيٰ صَدْرُكَ بِمَا بَقُولُونَ . فَسَبِّمْ يِحْمِدْ وَبَتَّكَ
وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ** (سورہ الحجر ۹۸ - ۹۷)

ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان (مشرکین) کی باتوں سے آپ کا دل غنگ ہوتا ہے، سو آپ اپنے پرو رگار کی شیع اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اسی لئے نبی اکرم ﷺ کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی اہم بات پیش آتی تو آپ ﷺ نماز کی طرف جھپٹتے۔

* * *

**وَأْمِرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، لَا نَسْتَكَ وَذْقًا ، نَحْنُ
فَوْزُكَ** (سورہ طہ ۱۳۲)

(اے محمد) اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر اور خود بھی اس پر قائم رہ۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔

﴿وَضَاحَت﴾ اس خطاب میں ساری امت نبی ﷺ کے تابع ہے یعنی ہر مسلمان کے لئے

ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تائید کرتا رہے۔

* إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثُرَ فَهَلْ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرٌ (سورة الكوثر)

یقیناً ہم نے تجھے حوضی کو شدیا ہے، پس تو اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی کر۔

* يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ فُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ هِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ (سورة المزمل 4-1)

(اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ سے خطاب فرمایا): اے چادر اوڑھنے والے!

رات کو تجدی کی نماز میں کھڑے رہا کریں مگر کچھ دیر آرام فرمائیں یعنی آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ آرام فرمائیں۔

* إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى وَنْ ثَلَثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلَثَتُهُ وَطَلَافَةً مَنِ الْذِينَ مَعَكَ (سورة المزمل 20)

آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب و تہائی رات کے اور آدھی رات کے اور ایک تہائی رات کے تجدی پڑھتی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام:

اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجہ اور اپنے شیر خوار پچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے مکہ کی سر زمین میں لا کر بیت اللہ کے قریب بخیر اور چیل میدان میں اقامت صلاۃ (نماز قائم کرنے) کے عظیم مقصد کے لئے بستے ہیں اور اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں:

* وَبَنَاهُ إِنَّمَا أَسْكَنَنَا مِنْ ذُرِّيَّتِي بِرَوَادِ غَبِيرٍ فِي زَوْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُمَرَّمِ، وَبَنَاهُ لِيُقْبِلُمُوا الصَّلَاةَ (سورة ابراہیم 37)

اے ہمارے پروردگارا میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھتی کی وادی میں تیزے

حرمت والے گھر کے پاس بیٹائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار! یہ اس لئے کہ وہ نماز قائم رکھیں۔
اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اور اپنی اولاد کے لئے الشبارک و تعالیٰ
سے دعا کرتے ہیں:

* وَبِّ اجْعَلْنِي مُقْبِلَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي وَبَنًا وَتَقْبَلَ هُمَّا (سورہ
ابراهیم 40)

اے میرے پانے والے! مجھے نماز کا پابند رکھا اور میری اولاد سے بھی (یعنی میرے
ساتھ میری اولاد کو بھی نماز کا اہتمام کرنے والا بنا) اے ہمارے رب! میری دعا قبول فرماء۔
﴿وضاحت﴾ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لئے بھی نماز کی پابندی
کرنے کی دعا مانگی، جس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی
نمازوں کی فکر کرنی چاہئے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام:

* وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا
نَبِيًّا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَهُ وَبَهُ مَرْضِيًّا
(سورہ مریم 54 - 55)

اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا
اور تھا بھی رسول اور نبی۔ وہ اپنے گھر والوں کو برایہ نماز اور زکاۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے
پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام:

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لئے بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ
السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بغیر باپ کے بچہ کی پیدائش پر لوگوں

نے حضرت مریم علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو کر ان پر ہتھیں لگانی شروع کر دیں، حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے دریافت کرو، مگر بھی لوگوں نے کہا کہ ہم اس گود کے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں، تبھی حضرت علیہ السلام شیر خوار بچے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے حکم سے بول اٹھتے ہیں:

* قَالَ إِنَّمَا أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ ، أَنْتَ نَبِيُّ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاكَ نَبِيًّا وَجَعَلْنَاكَ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْطَانَيْتُكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دَمْتُ حَيًّا (سورہ مبارکاً)

(مریم: 30-31)

انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور اس نے مجھے با برکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں۔ اور اس نے مجھے نماز اور زکاۃ کا حکم دیا جب تک بھی میں زندہ رہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام:

حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے کاہ کر کے اور ان کے گرد سال گزارنے کے بعد اپنے وطن واپس ہو رہے ہیں۔ راستہ میں انہیاں سردی کے زمانے میں رات کی تاریکیوں میں ان کی الہیہ کو درد زہ ہوتا ہے۔ دور پہاڑی پر روشنی نظر آتی ہے، اپنی الہیہ کو وہیں چھوڑ کر اس روشنی کو آگ سمجھ کر لینے کے لئے چلتے ہیں مگر وہ آگ نہیں بلکہ اللہ کی جگل تھی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتا ہے:

* إِنَّمَا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

(سورہ طہ: 14)

بیکھ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے کوئی لاکن نہیں ہے پس تو میری ہی

عبادت کر، اور میری یاد کے لئے نماز قائم رکھ۔

غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہننا کرس ب سے پہلے
نماز کا حکم فرمایا۔

*
وَأَوْهِبْنَا إِلَيْ مُوسَى وَأَخْبَرْنَاهُ أَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمَكُمَا يِمْصَرَ بِيُونُتَأْ
وَاجْعَلْنَا بِيُونُتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

(سورہ یونس 87)

اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہبھائی کے پاس وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان
لوگوں کے لئے مصر میں گھر برقرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار
دوں لو اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔

حضرت زکریا علیہ السلام:

*
فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَّيَ فِي الْمَحْرَابِ (سورہ آل عمران 39)
پس فرشتوں نے انھیں آواز دی جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

حضرت شعیب علیہ السلام:

*
قَالُوا يَا شَعَّيبُ أَ صَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

(سورہ ہود 87)

انہوں نے (یعنی کافروں نے) جواب دیا کہ اے شعیب! کیا تیری نماز تھے یہی
حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبدوں کو چھوڑ دیں۔
(وضاحت) حضرت شعیب علیہ السلام بہت کثرت سے نماز پڑھتے تھے۔

حضرت ابراہیم، لوط، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام:

حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کا تذکرہ

فرما کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

* وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدِونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْهَبْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَالِيَدِينَ (سورہ الانبیاء 73)
ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی
طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکاۃ دینے کی وی (تلقین)
کی اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔

حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو صحیح:

* يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمْرِ بِالْمَهْرُوفِ وَأَنْهِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى
مَا أَطَابَكَ. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ (سورہ لقمان ۱۷)
ایے میرے بیارے بیٹے! تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی صحیح کرتے رہنا،
بڑے کاموں سے منع کیا کرنا اور جو مصیبت تم پر آجائے اس پر صبر کرنا۔ (یقین مان) کہ یہ
بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔

حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کا نماز کے ساتھ شغف اور تعلق

حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کا نماز کے ساتھ جو گہر اتعلق تھا، اور نماز میں ان کی جو حالت اور کیفیت ہوا کرتی تھی، اس کا اندازہ قرآن و حدیث سے ادنیٰ سی واقفیت رکھنے والا شخص بھی کر سکتا ہے۔ بے شمار واقعات احادیث میں موجود ہیں، یہاں اختصار کی وجہ سے صرف چند احادیث و واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

(۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے..... (مسند احمد، نسائی)

(۲) حدیث میں ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ ﷺ مسجد نبوی کے موزون حضرت بلاط سے ارشاد فرماتے: بلاط! اٹھو، نماز کا بندوبست کر کے ہمارے دل کو چین اور آرام پہنچاؤ۔ (مسند احمد، ابو داود)

(۳) حضور اکرم ﷺ کا نماز کے ساتھ گہرے تعلق کا واضح اندازہ اس واقعہ سے بھی ہوتا ہے کہ بھرت سے قبل آپ کو مکہ والوں نے طرح طرح سے ستایا، انہوں نے آپ پر ظموم کے پہاڑ توڑے۔ چنانچہ کبھی آپ کی گرد میں چادر کا پھنڈا ڈالا گیا، کبھی آپ کے اوپر اونٹی کی او جڑی اور گھر کا کوڑا ڈالا گیا، طائف میں آپ پر پھر بر سائے گئے، اسی طرح جگ أحد میں دشمنوں نے آپ کو زخمی کیا مگر دوسروں کے درخواست کرنے پر بھی آپ نے ان کے حق میں ایک مرتبہ بھی بددعا نہیں کی لیکن غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں نے مدینہ پر چڑھائی کر رکھی تھی ایک دن آپ ﷺ کو عصر کی نماز سورج کے غروب ہونے تک پڑھنے کی مہلت نہ ملی تو آپ ﷺ نے ان دشمنان اسلام کے لئے اتنی سخت بددعا دی کہ اسی سخت بددعا کی دوسرے موقع پر آپ نے نہیں دی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿شَغَلُونِي عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةً الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بِئْوَتَهُمْ وَقُبُوَّلَهُمْ نَارًا﴾ (ان لوگوں نے مجھے عصر کی نماز

نہیں پڑھنے دی، اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے)۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم)

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ رات کو قیام فرماتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں درم آ جاتا۔ میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کے تمام الگی پچھلے گناہ (اگر ہوتے بھی تو) معاف کر دئے گئے ہیں، پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں اپنے پروردگار کا شکرگزار بندہ نہ ہوں۔ (صحیح بخاری)۔

حضور اکرم ﷺ جو راتوں کو اتنی بھی نمازیں ادا کرتے، یہ نماز کے ساتھ خاص شفف اور تعلق کا ہی نتیجہ تھا۔

(۵) حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ سنادیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی کوئی بات عجیب نہ تھی۔ ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ میرے طاف میں لیٹ گئے، پھر فرانے لگے: چھوڑو، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرمایا کہ بستر سے اٹھے، وضوفرمایا پھر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر بجدہ فرمایا اس میں بھی روتے رہے، پھر بجدہ سے اٹھے اور اسی طرح روتے رہے یہاں تک حضرت بلالؓ نے آکر صحیح کی نماز کے لئے آواز دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں جب کہ آپ کے الگی پچھلے گناہ (اگر ہوتے بھی تو) اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تو کیا پھر میں شکرگزار بندہ نہ ہوں؟ اور میں ایسا کیوں نہ کروں جب کہ آج رات مجھ پر هُو ان فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافَ

اللَّئِلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ۝ سے سورہ آل عمران کے ختم تک کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ (صحیح ابن حبان۔ ج ۲، صفحہ ۳۸۲)

(۶) حضرت عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ ﷺ کے سینہ مبارک سے رونے کی آواز (سائنس رکن کی وجہ سے) ایسی مسلسل آرہی تھی جیسے جہل کی آواز ہوتی ہے۔ (ابوداؤد۔ باب البرکاء فی الصلاۃ)

(۷) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم ﷺ کے پاس سے گزار۔ آپ ﷺ مدینہ منورہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں بھی آپ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا اور مجھے یہ خیال تھا کہ آپ ﷺ کو یہ معلوم نہیں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ ﷺ نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ میں نے (اپنے دل میں کہا) کہ سو آئتوں پر رکوع فرمائیں گے لیکن جب آپ ﷺ نے سو آیتیں پڑھ لیں اور رکوع نہ فرمایا تو میں نے سوچا کہ دو سو آئتوں پر رکوع فرمائیں گے مگر دو سو آئتوں پر بھی رکوع نہ فرمایا تو مجھے خیال ہوا کہ سورت کے ختم پر رکوع فرمائیں گے۔ جب آپ ﷺ نے سورت ختم فرمادی تو اللہُمَّ تَكَبَّرَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ تَكَبَّرَ، تَعْلَمَ رَبِّهِ پُرْحَا۔ پھر سورہ آل عمران شروع فرمائی تو میں نے خیال کیا کہ اس کے ختم پر تو رکوع فرمائی لیں گے۔ نبی اکرم ﷺ نے یہ سورہ ختم فرمائی لیکن رکوع نہیں فرمایا اور تین مرتبہ اللہُمَّ تَكَبَّرَ الْحَمْدُ، پُرْحَا۔ پھر سورہ ما نہہ شروع فرمادی۔ میں نے سوچا کہ سورہ ما نہہ کے ختم پر رکوع فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے سورہ ما نہہ کے ختم پر رکوع فرمایا تو میں نے آپ ﷺ کو رکوع میں شُبَّخَانَ رَبِّيَ الْغَظِيمِ پڑھتے سنا اور آپ اپنے ہونٹوں کو بھار ہے تھے (جکلی وجہ سے) میں سمجھا کہ آپ ﷺ اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے سجدہ فرمایا اور میں نے آپ ﷺ کو سجدہ میں شُبَّخَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى پڑھتے سنا اور آپ اپنے ہونٹوں کو بھار ہے تھے (جکلی وجہ سے) میں سمجھا کہ آپ

صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ پچھا اور بھی پڑھ رہے ہیں جسکو میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ پھر (دوسری رکعت میں) سورہ انعام شروع فرمائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا (کیونکہ میں مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا) (مصنف عبد الرزاق)

(۸) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز (تجبد) پڑھنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بسا قیام فرمایا کہ میرے دل میں ایک غلط چیز کا خیال آنے لگا۔ پوچھا گیا کہ کس چیز کا خیال آنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خیال آیا کہ بیٹھ جاؤں یا نماز کو چھوڑ دوں (کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بھی نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا)۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۹) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے ساتھ جو خاص تعلق تھا اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ مرض الوفات میں مرض کی شدت کے باوجود وفات سے چار دن پہلے یعنی جمعرات کی مغرب نکل تمام نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ عشاء کے وقت یماری کی شدت کی وجہ سے مسجد جانے کی طاقت نہ رہی، پھر بھی دو تین مرتبہ غسل کیا تاکہ صحابہ کرام کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا میں مگر ہر بار غشی طاری ہوئی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے نماز پڑھائی۔ ہفتہ یا تو اوار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی طبیعت میں بہتری ویسی تدوآدمیوں کے سہارے سے چلکر ظہر کی نماز ادا کرنے کے لئے مسجد تشریف لائے۔

انگلے روز دوشنبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دارِ قافلی سے دارِ بیتا کی طرف کوچ کر گئے۔

(۱۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے نکلا آخری کلام (نماز، نماز اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ذررو) تھا۔ (ابوداؤد)

(۱۱) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یا ارشاد فرمائی: نماز، نماز، اپنے غلاموں (اور ماتحت لوگوں) کے بارے میں اللہ سے ذررو، یعنی ان کے حقوق ادا

کرو۔ جس وقت آپ ﷺ نے یہ وصیت فرمائی، آپ کی زبان مبارک سے پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ (منداہم)

غرض بنی اکرم ﷺ نے زندگی کے آخری لمحات تک نماز کا اہتمام فرمایا اور امت کو بھی آخری وقت میں نماز کے اہتمام کرنے کی وصیت فرمائے گئے، یہ صرف نماز کے ساتھ بنی اکرم ﷺ کا خاص تعلق اور شعف کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آخری وقت تک نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے۔

(۱۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ ہم سے باشیں کرتے تھے اور ہم حضور سے باشیں کرتے تھے لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ ﷺ ایسے ہو جاتے گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں اور ہمتناللہ کی طرف مشغول ہو جاتے۔ (فضائل نماز)

(۱۳) حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ وہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لکڑی گڑی ہوئی ہے۔ (زادِ حقیقت)

(۱۴) حضرت عمر فاروقؓ کو جب بخوبی سے زخم کیا گیا تو ایک وقت آپ پرشی ہی کیفیت طاری تھی کہ کسی نے آپ کو نماز کے لئے بیدار کیا تو حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا: جی ہاں۔ نماز ضرور پڑھنی ہے جس نے نمازوں میں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ آپ نے اسی حال میں نمازاً دیکی، اور ان کے زخم سے خون کا گویا فوارہ جاری تھا۔ (موطا امام مالک)

(۱۵) ایک غزہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک خطہ کے موقع پر رات کو پھرادری نے کے واسطے دو صحابیوں کو متعین فرمایا، ان میں سے ایک مہاجر تھے اور دوسرا نے انصاری۔ انہوں نے ڈیوٹی کے اوقات کو تقسیم کر لیا کہ ہر ایک آدمی رات پھرہ دے اور آدمی رات سوئے۔ (یعنی ایک سوئے اور ایک پھرہ دے) اس تقسیم کے مطابق انصاری صحابی نے رات کے پہلے حصہ میں پھرادریاً شروع کیا، اور مہاجر ساتھی سو گئے۔ پھر انصاری صحابی نے بجائے خالی جانے کے لیے بہتر

سمجھا کہ نماز میں مشغول رہ کر یہ وقت گزار جائے چنانچہ انہوں نے نماز شروع کر دی۔ دشمن کی جانب سے کوئی آیا اور اس نے آدمی کھڑا دیکھ کر تیر مارا، اور جب یہاں کوئی حرکت نہ ہوئی اور نہ کوئی آواز نکلی تو یہ سمجھ کر نشانہ خطا کر گیا، دوسرا اور پھر تیر اس تیر مارا اور ہر تیر ان کے جسم میں پیوست ہوتا رہا اور یہ اس کو نکال کر جھیکتے رہے اور نماز میں مشغول رہے پھر اطمینان سے رکوع کیا، پھر سجدہ کیا اور نماز پوری کر کے مہاجر ساتھی کو جگایا۔ انہوں نے اٹھکر دیکھا کہ ایک چھوٹا شیخ تین تین جگہ سے خون جاری ہے، انہوں نے ما جرا پوچھا اور کہا کہ تم نے مجھے شروع ہی میں کیوں نہ جگایا۔ ان انصاری صحابہ نے جواب دیا کہ میں نے ایک سورہ (سورۃ الکھف) شروع کر رکھی تھی، میرا دل نہ چاہا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں لیکن پھر مجھے خطرہ ہوا کہ اگر اسی طرح پہلے درپے تیر لکتے رہے اور میں مر گیا تو حضور نے پہراہ داری کی جو خدمت میرے پردازی کی ہے وہ فوت ہو جائے گی، اس خیال سے میں نے رکوع کر دیا۔ اگر یہ اندر یہ شہادت ہوتا تو سورہ کے ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا اگرچہ مر ہی کیوں نہ جاتا۔ (نماز کی حقیقت)

(۱۶) حضرت ابوظہب انصاری ایک دن اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک پرندہ اڑا اور کچھ دیر تک باغ میں چکر لگاتا رہا، ان کی لگاہ اس پر پڑی اور اس کے ساتھ تیرتی رہی، توجہ اس پرندہ کی طرف ہو جانے کی وجہ سے نماز میں بھول ہو گئی، یاد نہ رہا کہ یہ کون سی رکعت ہے، فوراً حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری نماز میں یہ خلل اس باغ ہی کی وجہ سے پڑا ہے، میں اب اس کو اپنی ملکیت سے ٹکالتا ہوں اور راہ خدا میں دیتا ہوں جہاں آپ مناسب سمجھیں اس کو لگا دیں۔ تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوظہبؓ کا یہ باغ کمی لاگھ درہم کی مالیت کا تھا جس کو انہوں نے صرف اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی خاطر اللہ کے راستے میں عطا کر دیا۔ (نماز کی حقیقت)

(۱۷) حضرت عثمان غنیؓ کی خلافت کے زمانے میں ایک انصاری صحابی ایک دن اپنے باغ

میں نماز پڑھ رہے تھے، بھگروں کے پکنے کا خاص موسم تھا، اور خوش بھگروں کے بوجھ سے بچکے پڑے تھے، ان کی لگاہ خوشوں پر پڑی اور وہ منظر ان کو بھلا معلوم ہوا۔ خیال کے ادھر لگ جانے سے ان کو نماز میں بھول ہو گئی اور یاد نہیں رہا کہ کتنی رکعت پڑھ پکے ہیں۔ نماز میں بس اتنا خلل آجائے سے انھیں اس قدر صدمہ ہوا کہ اسی وقت طے کر لیا کہ اس باغ کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنیؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ماجرا ظاہر کر کے عرض کیا کہ میں اس کو راو خدا میں خرق کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کے خواലے ہے اس کا جو چاہیں کریں اور جہاں چاہیں لگادیں۔ چنانچہ انھوں نے ۵۰ ہزار درہم میں اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں صرف فرمادی۔ (نماز کی حقیقت)

(۱۸) حضرت غیبؑ جب کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گئے اور ایک مدت تک قید میں رکھنے کے بعد قتل کرنے کے واسطے ان کو مقتل (قتل کرنے کے جگہ) میں لاایا گیا تو سولی پر چڑھانے سے قتل ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری اگر کوئی خاص تمنا ہو تو کہو۔ انھوں نے کہا: ہاں، ایک تمنا ہے اگر تم پوری کرسکو اور وہ صرف یہ ہے کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ کے دربار کی حاضری قریب ہے، اگر تم مہلت دو تو دو رکعت نماز پڑھ لوں، چنانچہ مہلت دی گئی اور انھوں نے بڑے اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کی اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ سمجھو گے کہ موت کے ذر سے دیر کرنا چاہتا ہے تو دو رکعت اور پڑھتا۔ اسکے بعد سولی پر لکا دئے گئے۔ (نماز کی حقیقت)

ان چند واقعات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کا نماز کے ساتھ کیا شفف اور تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو بھی نماز کے ساتھ ایسا ہی تعلق رکھنے والا بنائے۔

بے نمازی اور نماز میں سستی کرنے والے کا شرعی حکم

تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔

شریعتِ اسلامیہ میں کسی کو ناجائز قتل کرنے، کسی کا مال لوٹنے، زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔

نماز پا لکھنے پڑھنے والوں یا صرف جحمد و عیدین یا بھی بھی پڑھنے والوں کا قرآن

و حدیث کی روشنی میں شرعی حکم کیا ہے، اس سلسلہ میں علماء کی متعدد رائیں ہیں:

۱) حضرت امام احمد بن حنبلؓ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور ملتِ اسلامیہ سے لکھ جاتا ہے۔ اسکی سزا یہ ہے کہ اگر قوبہ کر کے نماز کی پابندی نہ کرے تو اسکو قتل کر دیا جائے۔ اس رائے کے مطابق بے شمار احکامات مرتب ہوتے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

- وہ مکہ اور مدینہ کی سر زمین میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔

- اپنے والدیا قریبی رشتہ دار کے انتقال پر دراثت میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔

- ایسے شخص کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔

- مسلمان عورت کے ساتھ اسکا نکاح جائز نہیں ہے، اگر نکاح کر چکا ہے تو وہ خیخ ہو جائیگا۔

- اسکی نہ جنازے کی نماز پڑھی جائیگی اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائیگا۔

- اسکی مغفرت کے لئے دعا بھی نہیں مانگی جائیگی۔

۲) حضرت امام مالکؓ اور حضرت امام شافعیؓ کہتے ہیں کہ نمازوں کو چھوڑنے والا کافر تو نہیں، البتہ اسکو قتل کیا جائیگا۔

۳) حضرت امام ابوحنیفہؓ فرماتے ہیں کہ اسکو قتل نہیں کیا جائیگا، البتہ حاکم وقت اسکو حمل میں ڈال دے گا۔ اور وہ حمل ہی میں رہے گا یہاں تک کہ قوبہ کر کے نماز شروع کر دے یا پھر وہیں

مرجائے۔ (رسالتہ فی حکم تارک الصلاۃ - فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمینؒ)
نماز کو ترک کرنے یا اس میں سستی کرنے پر قرآنؐ کریم اور احادیث نبویہ میں بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے:

آیات قرآنیہ:

* **فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَخْنَمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُكَلِّفُونَ غَيْرًا。إِلَّا مَنْ نَاتَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا** (سورہ مریم ۵۹ - ۶۰)

پھر ان کے بعد ایسے تالف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ غی میں ڈالیں جائیں گے۔ سو اے ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لا لیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔

نماز کو ضائع کرنے والے کون ہیں؟ حضرت مجاہد، حضرت عکرمہ، حضرت عطاء اور حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی امت میں کچھ لوگ، آخری زمانے میں ایسے پیدا ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کر کے اپنی خواہشوں کی ابیاع کریں گے (تفسیر ابن کثیر، تفسیر بن حوشی)۔

نماز کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟

- حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے وقت پر اور اطمینان و سکون کے ساتھ ادا نہ کرنا، نماز کو ضائع کرنا ہے (تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی)۔

- حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کہتے ہیں کہ نماز کو ضائع کرنا بالکلیہ ترک کرنا نہیں بلکہ وقت کو ضائع کرنا ہے، یعنی وقت پر نماز کا ادا نہ کرنا نماز کا ضائع کرنا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)۔

- حضرت سعید بن میتبؓ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو عصر کے وقت تک اور عصر کی نماز کو سورج کے غروب ہونے تک ادا نہ کرنا، نماز کو ضائع کرنا ہے (تفسیر بن حوشی)۔

غی سے کیا مراد ہے؟

- حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غی، جہنم کی ایک بہت گھری وادی ہے جسمیں کھانا انتہائی خراب ہے (یعنی خون اور پیپ) (تفیر ابن کثیر)۔
- حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غی، جہنم کی ایک وادی ہے جسکی حرارت سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہیں (تفیر بغوی)۔
- حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غی، جہنم کی ایک وادی ہے جو نہایت گھری اور شدید گرم ہے (تفیر بغوی)۔
- حضرت عطاءؓ کہتے ہیں کہ غی، جہنم کی ایک وادی ہے جسمیں خون اور پیپ بہتا ہے (تفیر بغوی)۔
- حضرت وہب کہتے ہیں کہ غی، جہنم کی ایک نہر ہے جو انتہائی گھری ہے اور اس کا پانی بہت زیادہ خراب ہے (تفیر بغوی)۔
- دیگر بعض علماء نے غی سے مراد خسارہ و نقصان یا دردناک عذاب لیا ہے (ابن کثیر، بغوی)۔

حقیقی توبہ:

(الاَمَنْ تَابَ) سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر تو بے کر کے نمازوں کا اہتمام کرنے لگیں، خواہشات کی انجام سے بازاً جائیں، ایمان اور نیک اعمال کے تقاضوں کا اہتمام کر لیں تو ایسے لوگ مذکورہ انجام بد سے محفوظ اور جنت کے مستحق ہوں گے۔

* مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقْفٍ. قَالُوا لَمْ نَكُ منَ الْمُصْلِينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْهِمُ الْمُسْكِنِينَ (سورة المدثر 44-42)

تمہیں دوزخ میں کسی چیز نے ڈالا، وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے.....

الْجَنَّةُ، جَنَّتُ كَبِالاً خَانُوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ ہمیں مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یعنی ہم نے نہ اللہ کے حقوق ادا کئے اور نہ ہم بندوں کی خبری۔ غور فرمائیں کہ جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نمازوں پڑھنا ہتلا یا کیونکہ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔

* **مُنَبِّيِّينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا هِنَّ الْمُشْرِكُونَ**
(surah ar-Room 31)

(لوگو!) اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔

یعنی ایمان و تقویٰ اور نماز قائم کرنے سے گریز کر کے مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ * **فَوَيْلٌ لِّلْمُكَلِّفِينَ。الَّذِينَ هُمْ عَنْ حَلَاتِهِمْ سَاهُونَ** (surah al-Mâ'idah 5, 4)

ان نمازوں کے لئے خرابی (اور ویل نای جہنم کی جگہ) ہے جو نماز سے غافل ہیں۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے یا نماز کو اس کے اپنے منسون وقت میں نہیں پڑھتے، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں یا تا خیر سے پڑھنے کو معمول بناتے ہیں یا اخشواع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ سارے ہی مفہوم اس میں آجاتے ہیں، اس لئے نماز کی مذکورہ ساری عی کوتا ہیوں سے بچتا چاہئے۔

* **إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَاءِعُهُمْ وَإِذَا قَاتَمُوا إِلَهِ**
الصَّلَاةِ قَاتَمُوا كُسَالَى (surah an-Nisâ' 142)

بے شک منافقوں سے چالبازیاں کر رہے ہیں اور وہ انھیں اس چالبازی کا بدله دینے والا ہے۔ اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کامی کی حالت میں

کھڑے ہوتے ہیں۔

نمازِ اسلام کا اہم ترین رُکن اور اشرف ترین فرض ہے اور اسیں بھی منافقین کا ملی اور سنتی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا دل، ایمان، اللہ کا خوف اور خلوص سے محروم ہوا ہیں وجہ تھی کہ عشاء اور مجرم کی نمازیں بطور خاص ان پر بہت بھاری تھیں۔

آج اگر ہمارے لئے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا مشکل ہے، تو ہمیں اس کی خاص ٹکر کرنی چاہئے کیونکہ نماز کو وقت پر جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنا، یا اطمینان و سکون کے ساتھ ادا نہ کرنا مؤمنین کی شان نہیں بلکہ منافقین کا عمل ہے۔

* **وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ**

(سورہ النوبۃ ۵۴)

وہ (منافقین) کا ملی سے نماز کو آتے ہیں اور میرے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ نماز کو کامیابی اور سنتی سے ادا کرنا منافقین کی علامتوں میں سے ایک

علامت ہے۔

* **وَظَانَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالنَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ . إِلَى وَبَكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ . فَلَا صَدَقَ وَلَا صَطَّاً . وَلَكِنْ كَذَّبَ وَنَوَّلَى** (سورہ القيامة ۲۸ - ۳۲)

اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائیگی، آج تیرے پر روگار کی طرف چلتا ہے، اس نے نہ تو قدریت کی اور نہ نماز ادا کی بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے برا جرم اور سب سے پہلا جرم ایمان نہ لانا بتایا اور اس کے بعد درسا سب سے برا جرم نماز نہ پڑھنا قرار دیا۔

* **وَإِذَا قَيْلَ لَهُمْ أْرْكَحُوا لَا يَرْكَحُونَ . وَبِلْ يَوْمَئِذٍ لِلَّهُ كَذَّابُينَ .**

(سورہ المرسلات ۴۹ - ۴۹)

ان ہے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کرلو تو نہیں کرتے۔ (یعنی جب ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے تو نمازوں پڑھتے) اس دن جھٹلانے والوں کے لئے سخت ہلاکت ہے۔

احادیث شریفہ:

* عَنْ بُرِيَّةَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَهْدُ الَّذِي بَيَّنَنَا وَبَيَّنْهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ رواهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَالنسَّانِي وَالتَّرمِذِي وَابْنِ مَاجَةَ وَابْنِ حَبَّانَ وَالْحَاكِمَ (الترغيب والتريهيب - الترهيب من ترك الصلاة متعدداً)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہمارے (الل ایمان) اور ان کے (الل کفر) درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے نماز کھوڑ دی اس نے کفر کیا۔

* عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ الرَّجْلِ وَبَيْنَ الشَّرِكِ وَالْكُفُرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (رواہ مسلم - باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة).

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے۔

* عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُوصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبَعِ خَصَائِلٍ فَقَالَ: ... وَلَا تَنْتَرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَلَةِ ... رواه الطبراني وحمد بن نصر فی كتاب الصلاة بأسنادين لا يأس بهما (الترغيب والتريهيب - الترهيب من ترك الصلاة متعدداً)

حضرت عمادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے محبوب رسول اللہ ﷺ نے سات صیحتیں کیں: جان کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز

چھوڑوے وہ نہیں سے کل جاتا ہے

* عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِشْرِ كَلَمَاتٍ قَالَ: وَلَا تَنْرُكُنَّ صَلَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذَمَّةُ اللَّهِ رواه
احمد والطبراني في الكبير (الترغيب والترهيب - الترهيب من ترك الصلاة متعمداً).

حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے ۱۰ باتوں کی وصیت فرمائی: ..

فرض نماز جان کرنہ چھوڑنا جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ ماس سے بری ہے

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سَهْمَ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ رواه البزار (الترغيب والترهيب - الترهيب من ترك الصلاة متعمداً).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا دِينَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ ، إِنَّمَا مَوْضِعَ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ مَوْضِعَ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ رواه الطبراني في الأوسط والصغر و قال تفرد به الحسين بن الحكم الجبري (الترغيب والترهيب - الترهيب من ترك الصلاة متعمداً).

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

..... نماز کے بغیر دین نہیں۔ دین میں نماز کا درجہ وہی ہے جو جسم انسانی میں سرکار درجہ ہے۔

* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: كَانَ أَصْنَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكُهُ كُفُرٌ غَيْرُ الصَّلَاةِ (رواہ الترمذی
- باب ما جاء في ترك الصلاة).

حضرت عبد اللہ بن شقیقؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہؓ نماز کے سوا کسی اور دینی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہ سمجھتے تھے۔

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ صَلَاةً أَنْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوْا (رواه البخاري - باب فضل العشاء في جماعة).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نمازؓ عشاء اور نمازؓ بھردا کرنا منافقوں کے لئے سب سے زیادہ مشکل ہے، اگر انھیں ان کے ثواب کا علم ہوتا تو ان اوقات میں زمین پر رکھتے ہوئے بھی آتے (اور جماعت سے نماز پڑھتے)۔

* عن ابن عمر رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأْنَمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ رواه مالک والبخاري ومسلم وابو داود والترمذی والنسانی وابن ماجہ ... (الترغیب والترہیب - الترہیب من فوات العصر)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کے اہل و عیال اور مال و اسباب سب بلاک ہو گیا ہو۔

* عن بُرِيَّةَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ رواه البخاری والنسانی وابن ماجہ (الترغیب والترہیب - الترہیب من فوات العصر بغير عذر).

حضرت بُرِيَّة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے اعمال خالٰ ہو گئے۔

* أنَّ المَسْوُرَ بْنَ مَخْزَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها فليقطع عمر لصلاة الصبح فقال عمر الفاروق رضي الله عنه : نَعَمْ ، لَا حَظٌ فِي الإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى عُمَرُ وَجْرَحُهُ يَتَّبَعُ دَمًا (رواه مالك في المؤطا - باب العمل فيمن عليه الدم من جرح أو رعاف ورواه الطبراني في الأوسط) هذا لفظ مؤطا مالك حضرت سور بن مخزمه فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق رضي الله عنه کے پاس اس رات تشریف لے گئے جس رات آپ کے برچا مارا گیا تھا۔ جب ان کو صحیح کی نماز کے لئے بیدار کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضي الله عنه نے فرمایا: ہاں ہاں، ضرور۔ اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضي الله عنه نے اس حال میں نماز پڑھی کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہرہ رہا تھا۔

* عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّؤْيَا فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي يُشَلِّغُ رَأْسَهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفَضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمُكْتُوبَةِ (رواه البخاري - باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح) حضرت سرة بن جنڈب رضي الله عنه خواب کی حدیث میں نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دھتا ہے اور جو فرض نماز چھوڑ کر سوتا رہتا ہے اس کا سر (قیامت کے دن) پھر سے کچلا جائیگا۔

* عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَفِظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبَرَّهَا نَأَى وَنَجَاهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَفِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بَرًّا هَانَ وَلَا نَجَاهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ

وَقَارُونَ وَهَامَانَ وَأَبَيِّ بْنِ خَلْفٍ (رواہ ابن حبان فی صحيحہ - ذکر الزجر عن ترك المراء المحافظة علی الصلوات المفروضة ورواہ الطبرانی والبیهقی واحمد).

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم ﷺ نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی، اس (کے پورے ایماندار ہونے) کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لئے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ (اسکے پورے ایماندار ہونے کی) کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اور وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، هامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

* * *

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمِّتُ أَنْ أَمْرُ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَحْرَقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بِبُيُوتِهِمْ (رواہ مسلم - باب فضل صلاة الجمعة ...).

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جمہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلاویں۔

* * *

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ تَلَاثَ جُمُعَ تَهَاوَنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ (رواہ النسائي - التسید فی التخلف عن الجمعة / والترمذی - باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر).

حضرت ابو جعفر ضمیری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے تین جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دئے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مهر لگادیتے ہیں۔

سنن و نوافل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعہ میرے قرب میں ترقی کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں اور جب میں محجوب بنالیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کٹے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ جو وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ (صحیح البخاری۔ باب التوضیح)۔

وضاحت ہے ہاتھ پاؤں بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کی رضا اور محبت کے ماتحت ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سے سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائیگا، اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارہ میں ہوگا۔ اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نظریں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی بھیل کر دی جائیگی۔ (ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مسند احمد)۔

لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ فرض نمازوں کے ساتھ سنن و نوافل کا بھی خاص انتظام کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو جائے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ نوافل کے ذریعہ اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ نیز اگر خدا نخواستہ قیامت کے دن فرض نمازوں میں کچھ کمی نکلے تو سنن و نوافل سے اسکی بھیل کر دی جائے۔

سُنْنَةٌ مُؤْكِدَةٌ: (۲ رکعت نماز فجر سے قبل، ۳ رکعت نماز ظہر سے قبل، ۲ رکعت نماز ظہر کے بعد، ۲ رکعت نماز مغرب کے بعد اور ۲ رکعت نماز عشاء کے بعد)۔

* عنْ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ أُمّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ ثَلَثَةَ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطْوِعاً غَيْرَ الْفَرِيضَةِ، إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (رواه مسلم - باب فضل السنن الراتبة).

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سننا: جس شخص نے دن اور رات میں بارہ رکعتیں پڑھیں جو کہ فرض نہیں ہیں، اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا گیا۔

ترمذی میں یہ روایت وضاحت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص دن رات میں یہ بارہ رکعتیں پڑھے گا، اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جائیگا: ۳ ظہر سے پہلے اور ۲ ظہر کے بعد۔ ۲ مغرب کے بعد۔ ۲ عشاء کے بعد۔ ۲ فجر سے پہلے۔

* عنْ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَبْلَ الظَّهَرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ فِي بَيْتِهِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (رواه مسلم - باب جواز النلاقۃ قائمًا او قاعداً).

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: آپ ﷺ سے پہلے چار رکعتیں گھر میں ادا فرماتے پھر مسجد میں جا کر لوگوں کو (فرض) نماز پڑھاتے پھر واپس گھر تشریف لاتے

اور دو رکعت (ظہر کے بعد) ادا فرماتے۔ پھر لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے اور گھر واپس تشریف لا کر دو رکعت نماز پڑھتے پھر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور گھر تشریف لا کر دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔

* عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتنا الفجر خير من الدنيا وما فيها وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعاً (رواه مسلم - باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحمد عليهما وتخفيتها والمحافظة عليهما).

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جبکہ دو رکعت (سنیت) دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ دو رکعتوں پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔

* عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي على شيء من النوافل أشد معاهادة منه على ركعتي الفجر رواه البخاري ومسلم وأبو داود والناساني وابن خزيمة (الترغيب والترحيب - الترغيب في المحافظة على ركعتين قبل الصبح).

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جبکہ سنتوں سے زیادہ کسی نسل کی پابندی نہیں فرماتے تھے۔ (ایک حدیث میں ہے کہ آپ جبکہ سنیت منحر پڑھا کرتے تھے)۔

* عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لَا تَذَعُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَلَنْ طَرَدْتُمُ الْخَيْلَ (رواه أبو داود - باب رکعتي الفجر). حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جبکہ دو رکعت (سنیت) نہ چھوڑو اگرچہ گھوڑوں سے تم کو رومندیا جائے۔

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيُصَلِّ لَهُمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ (رواه

الترمذی - باب ما جاء فی إعادتهما بعد طلوع الشمس و قال الترمذی: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان ثوری و ابن المبارك والشافعی وأحمد واحسان. و قال الحاکم: صحيح على شرط الشیخین).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے مجرم کی دو رکعتیں (سنت) نہ پڑھی ہوں تو اسے چاہئے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔

* عَنْ مَالِكٍ رَّحْمَةُ اللَّهِ لَهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاتَّثَّرَ رَكْعَتَنَا الْفَجْرِ فَقَضَاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ (رواہ مالک فی المؤطرا - باب ما جاء فی رکعتی الفجر).

حضرت امام مالکؓ فرماتے ہیں کہ انھیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مجرم کی دو رکعت فوت ہو گئیں، تو آپ نے سورج نکلنے کے بعد انھیں قضا پڑھا۔

* عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعَ قَبْلَ الظُّهُرِ وَرَكْعَتَنِ قَبْلَ الْغَدَاءِ (رواہ البخاری - باب رکعتان قبل الظہر).

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کرم ﷺ نے ظہر سے پہلے ۲ رکعت اور مجرم سے پہلے دو رکعت کئی نہیں چھوڑتے تھے۔

* عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَفَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهُرِ وَأَرْبَعَ بَعْدَهَا، حَرَمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ (رواہ ابو داؤد - باب الأربع قبل الظہر وبعدہا / والترمذی و قال حديث حسن صحيح - باب آخر من سنن الظہر).

حضرت ام المؤمنین ام حبیبة رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے ظہر سے پہلے چار اور ظہر کے بعد بھی چار رکعتیں پڑھنے کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ

نے اسکو (جہنم کی) آگ پر حرام کر دیا۔

* عنْ أُمّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصْلَى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ بَعْدَ الظُّهُرِ فَتَمَسَّ وَجْهُهُ النَّارُ أَبْدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (رواه التنساني - باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد).

حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو مؤمن بندہ بھی ظہر کے بعد چار رکعتیں پڑھتا ہے اسے جہنم کی آگ انشاء اللہ کبھی نہیں چھوئے گی۔

(وضاحت) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ظہر سے پہلے کی چار رکعتیں اور بھر سے پہلے کی دو رکعتیں ثابت ہوئیں، یہ سنن مؤکدہ ہیں، آپ ان کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ جبکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا والی روایت میں ظہر کے بعد چار رکعت کی فضیلت بیان ہوئی۔ یہ دو رکعت سنن مؤکدہ کے علاوہ دو قلیل ہیں۔

* عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصْلَى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهُرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا (رواه الترمذی - باب آخر من سنن الظہر)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کرم ﷺ جب ظہر سے پہلے ۲ رکعت نہ پڑھتے تو انہیں بعد میں پڑھ لیتے۔

* عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتِهُ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الظُّهُرِ صَلَّاهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهُرِ (رواه ابن ماجہ - باب من فاتته الأربع قبل الظہر).

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم ﷺ کی ظہر سے پہلی ۲ رکعتیں

روہ جاتی تو آپ ﷺ ظہر کے بعد دو رکعت ادا کر کے فوت شدہ چار رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔
 (وضاحت: کبھی کبھی حضور اکرم ﷺ ظہر سے پہلے دو رکعت ادا کرتے تھے، جیسا کہ مسلم میں
 حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے)۔

سنن غیر مؤکدة:

* عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلّى
 قبل العصر أربع ركعات (رواہ الترمذی - باب ما جاء في الأربع قبل العصر)
 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ عصر سے پہلے چار
 رکعت پڑھتے تھے۔

* عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم رَحْمَ اللَّهُ إِمْرَأً صَلَّى
 قبل العصر أربعاً (رواہ ابو داود - باب الصلاة قبل العصر / والترمذی وقال
 حديث حسن - باب ما جاء في الأربع قبل العصر).

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
 اللہ تعالیٰ اس شخص پر حرم کرے جس نے عصر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھی۔
 (وضاحت) اگر وقت کم ہے تو دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ ابو داود کی روایت میں
 ہے: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز عصر سے پہلے دو رکعت نماز
 ادا فرماتے تھے۔

عشاء کی نماز سے پہلے اگر وقت ہو تو ۲ رکعت ورنہ ۲ رکعت ہی پڑھ لیں:

شارجہ بن ماری علامہ ابن حجرؓ نے حضرت برادرِ اللہ عدو کے حوالے سے آنحضرت کا یہ ارشاد
 نقل کیا ہے کہ: جس نے عشاء سے پہلے چار رکعت پڑھیں گویا اس نے رات کو تہجد پڑھی
 اور عشاء کے بعد چار رکعت پڑھنے والے کو شب قدر میں چار رکعت پڑھنے کا ثواب طے گا۔

تیہی نے اس روایت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور نسانی دو اقطیعی نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ مارے نقش کیا ہے۔ (الدرایہ ج ۱ صفحہ ۱۹۸) (نماز چیمبر صفحہ ۲۵۳)۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام عشاء کی نماز سے پہلے چار رکعت کو مستحب سمجھتے تھے۔ (مروزی۔ قیام اللیل۔ صفحہ ۵۸) (نماز چیمبر صفحہ ۲۵۳)۔

نواب صدیق حسن خان ”شرح بلوغ الرام“ (مسک الخاتم ج صفحہ ۵۲۵، ۵۲۹) میں نقل کرتے ہیں کہ عشاء سے پہلے چار رکعت مستحب ہیں، نیز عشاء سے قبل دو رکعت نماز پڑھنے کو بھی وہ حدیث شامل ہے جس کی رو سے اذان و اقامت کے درمیان نماز پڑھنے کی ترغیب ہے۔ (نماز چیمبر صفحہ ۲۵۳)

* عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة الرسول فقالت: كان يصلّي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلّي أربعًا ثم يأوي إلى فراشه (رواہ ابو داود - باب صلاة اللیل).

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی نماز کی بابت پوچھا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آتے اور چار رکعتیں پڑھ کر بستر پر آرام فرماتے۔

* عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل على إلا صلى أربع ركعات أو سنت ركعات (رواہ ابو داود - باب الصلاة بعد العشاء)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کبھی عشاء کے بعد نماز پڑھ کر میرے یہاں تشریف نہیں لائے مگر آپ نے چار یا چھ رکعتیں (مع دو رکعت سنت مذکورہ) ضرور پڑھیں۔

نمازوں کے بعد پڑھ کر دو قل بِرَحْمَةِ رَبِّکُمْ

* عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي ثالث عشرة ركعات، يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس (رواه مسلم - باب صلاة الليل والوتر).

حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی نمازوں کے متعلق پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے، پہلی آٹھ رکعت تہجد پڑھتے، پھر تین و تر پڑھتے پھر دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے۔

* عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس (رواه ابن ماجة - باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسا / والترمذى - باب ما جاء لا وتران في ليلة).

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ و تر کے بعد دو ہلکی رکعتیں (لعل) بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔

* عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أية الكافرون (رواه أحمد في مسنده ج 5 ص 260).

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ و تر کے بعد دو رکعت (لعل) بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) پڑھتے تھے۔ میں سورہ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) پڑھتے تھے۔

سنن ونوافل کی ادائیگی گھر میں:


سنن ونوافل کو گھر کے اس خاص حصہ میں ادا کرنا جو نماز کے لئے مخصوص کیا گیا ہے، مسجد میں ادا کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔ البتہ گھر میں اگر سکون واطمینان نہیں ہے یا مسجد سے واپس آ کر دنیاوی مشاغل میں گھر جانے کا اندریشہ ہے تو بہتر ہے کہ مسجد میں ہی سنن ونوافل ادا کر لیں۔

* عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلُّوا إِلَيْهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ (رواء البخاري - باب صلاة الليل / مسلم - باب استحباب النافلة في بيته)

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! اپنے گھروں میں نمازوں پڑھا کرو اس لئے کہ سوائے فرض نمازوں کے باقی نمازوں (یعنی ننیتیں اور نوافل) گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔

* عَنْ جَابِرِ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاةَهُ فِي مَسْجِدٍ، فَلَا يَفْعَلُ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا (رواء مسلم - باب استحباب صلاة النافلة في بيته).

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم فرض نمازوں میں ادا کرو تو کچھ نماز (سنن ونوافل) گھر میں بھی پڑھا کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نمازوں کی بدولت گھر میں خیر و برکت پیدا کرتا ہے۔



نماز و تر

و تر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے صحیح صادق تک رہتا ہے، اگر تہجد کی نماز پڑھنے کا پختہ ارادہ ہے تو نماز تہجد کے بعد و تر پڑھنا زیادہ افضل ہے ورنہ سونے سے پہلے و تر پڑھ لینا چاہئے۔

* عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خافَ إلا يقُومَ من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمِعَ أن يقُومَ آخرَه فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلِك أفضَلُ (رواه مسلم - باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله)

حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ﷺ نے فرمایا: جسے رات کے آخر حصہ میں آنکھ نہ کھلنے کا ذرہ ہو، اسے و تر پڑھ کر سوتا چاہئے اور جسے آنکھ جانے کا یقین ہو وہ رات کے آخر حصہ میں و تر پڑھ کیوں کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ وقت افضل ہے۔

* عن خارجة بن خزافة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام : إن الله أمدكم بصلوة هي خير لكم من حمر اللنعم، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر (رواه ابن ماجة - باب ما جاء في الوتر / والترمذی - باب ما جاء في فضل الوتر / وأبو داود - باب استحباب الوتر ، وصححه الحاکم).

حضرت خارجہ بن خداوند رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک ایسی نماز کا اضافہ کیا ہے جو تمہارے لئے سرخ انٹوں سے بھی بہتر ہے، اور وہ و تر کی نماز ہے جس کا وقت عشاء کی نماز سے طلوع جمعرک ہے۔

* عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: سمعتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: الوترُ حقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ، فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ،

فَمَنْ لَمْ يُؤْتِنْ فَلَيْسَ مِنَ الْمُلْتَثِلَّا رواه أَحْمَدُ وَأَبْوَ دَاوُدُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ
اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ - التَّرْغِيبُ فِي
صَلَاةِ الْوَتْرِ وَمَا جَاءَ فِيهِ لَمْ يُؤْتِنْ).

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے
ہوئے سن: وَرَأَنَّهُ، جو وَرَأَنَّهُ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو وَرَأَنَّهُ پڑھے وہ ہم میں
سے نہیں۔ جو وَرَأَنَّهُ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

* عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوتِرُوا
فَبَلَّ أَنْ تُصْبِحُوا (رواہ مسلم - باب صلاة اللیل مشی مشی).

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد
فرمایا: صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے وَرَأَنَّهُ کرو۔

* عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَامَ
عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَّةَ فَلَيُصْلِلَهُ إِذَا ذَكَرَهُ (رواہ أبو داؤد - ابواب الوتر). وَفِي
الْبَيْهَقِيِّ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ
نَسِيَّةَ فَلَيُصْلِلَهُ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ (رواہ البیهقی فی سنن کبری - ابواب الوتر).

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
جو شخص وَرَأَنَّهُ پڑھے بغیر سوگیا یا بھول گیا تو جب یاد آئے ضرور پڑھے۔ سنن یعنی میں حضرت
ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص وَرَأَنَّهُ پڑھے بغیر
سوگیا وہ صبح کو پڑھے اور جو بھول گیا وہ یاد آنے پر پڑھے۔

امام مالکؓ فرماتے ہیں انھیں یہ بات کہچی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت
عبدالله بن صامت، حضرت قاسم بن محمد اور عبد اللہ بن عامر نے مجرم کے بعد وَرَأَنَّهُ پڑھے (یعنی
بروقت وَرَأَنَّهُ کے تو مجرم کے بعد بطور تقاضا پڑھے) مَوَظَّاماً لَكَ۔ باب الوتر بعد الغیر۔

نمازِ تہجد

قرآن کریم میں فرض نماز کے بعد جس نماز کا ذکر کرتا کیا کیے کے ساتھ بار بار کیا گیا ہے وہ تہجد کی نماز ہے جو تمام نوافل میں سب سے افضل نماز ہے۔ تہجد میں حضور اکرم ﷺ کا زیادہ تر عمل آٹھ رکعت لفظ اور تین رکعت و تر پڑھنے کا تھا، البتہ کبھی کبھی کم یا اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے۔

تہجد کی نماز کے سلسلہ میں قرآن کریم کی بعض آیات:

* نَتَبَاجِي فِي جَنَوْبِهِمْ عَنِ الْمَضَ�يِعِ يَذْكُرُونَ وَبَهُمْ هُوْنَا وَطَمَّهَا وَوَمَا
وَزَقْنَا لَهُمْ بِيَنْفِقُونَ (سورہ السجدة 16)

وہ لوگ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھکر اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور رثا ب کی امید پر پکارتے رہتے ہیں (یعنی نماز، ذکر اور دعا میں لگے رہتے ہیں) اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اُسکی سے خیرات کیا کرتے ہیں۔

یا انکی صفت اور عمل ہے لیکن جزا اور بد عمل سے بہت زیادہ بڑا ہے:

* كَلَّا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَفْهَمَ لَهُمْ وَنَفْرَةٌ أَغْبَيْنِ جَزَاءً وَحَا كَانُوا
بِيَعْمَلُونَ (سورہ السجدة 17)

ایسے لوگوں کے لئے آنکھوں کی ٹھیٹک کا جو سامان خزانہ غیب میں موجود ہے اسکی کسی شخص کو بھی خیر نہیں۔ یہ ان کو ان اعمال کا بدله ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔

* وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشِيْنَ عَلَى الْأَرْضِ هُوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَوْمَئُونَ لِرَبِّهِمْ سَجَدًا وَقَيْمَانًا (سورہ
الفرقان 64)

رُحْمَنَ كَيْ (چے) بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتی (عاجزی) کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتمیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہدیتے ہیں کہ سلام ہے۔ اور جو اپنے رب کے سامنے مجبدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بد لے جنت میں بالا خانے دئے جائیں گے۔

* ڪَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجُمُونَ . وَيَالْأَسْنَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

(سورہ الذاریات 17 - 18)

وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے (یعنی رات کے اکثر حصہ میں عبادت میں مشغول رہتے تھے) اور شب کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔

احادیث شریفہ:

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضَلُ الصَّيَامَ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ ، وَأفضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِينَسَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ (رواه مسلم - باب فضل صوم المحرم).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: رمضان البارک کے بعد سب سے افضل روزے ماہِ حرم کے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے یعنی تجوہ۔

* عن عبد الله بن سالم رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامَ تَذَخَّلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ (رواه الترمذی و قال حديث صحيح - باب / وابن ماجہ - باب ما جاء في قيام الليل)

حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
اے لوگو! سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور راتوں میں ایسے وقت نمازیں پڑھو جبکہ
لوگ سورہ ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

* عَنْ أَبِي مَالِكَ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ
فِي الْجَنَّةِ غَرَقًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا
أَعْدَهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَفْسَى السَّلَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ
وَالنَّاسُ نِيَامٌ (رواه ابن حبان في صحيحه - ذكر وصف الغرف التي أعدها الله
لمن أطعم الطعام....).

حضرت ابو مالک الاشعري رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
جنت میں ایسے بالاخانے ہیں جن میں اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر
آتی ہیں۔ یہ بالاخانے اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کے لئے تیار فرمائے ہیں جو لوگوں کو کھانا
کھلاتے ہیں، خوب سلام پھیلاتے ہیں اور رات کو اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ
سورہ ہوتے ہیں۔

* عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
جَمِيعًا كُتُبًا فِي الْذَّاكِرِينَ وَالْذَّاكِرَاتِ (رواه أبو داود بسناد صحيح - باب
قيام الليل).

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: جب آدمی رات میں اپنے گروں کو جگاتا ہے اور میاں یہوی دونوں تہجد کی
(کم از کم) درکعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کاشمار ذکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔

* عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علىكم بقىام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو فربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنها للام (رواه البيهقي - الترغيب في قيام الليل).

حضرت ابو امامہ بنی الحارث سے مقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تجد کہ اہتمام کیا کرو، کیونکہ یہ سلف صالحین (نیک لوگوں) کا شیوه ہے، قرب الہی کا سبب ہے، خطاؤں کو مٹانے والا ہے اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے۔

* عن عائشة رضي الله عنها قالت أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيلِ حَتَّى تَقْطَرَّ قَدْمَاهُ ، فَقَلَّتْ لَهُ: لَمْ تَصْنَعْ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ؟ قَالَ: أَفَلا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا (رواه البخاري - باب قوله ليغفر اشك لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر).

حضرت عائشہ بنی الحارث سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ رات کو قیام فرماتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کردے گئے ہیں (اگر ہوتے بھی)، پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

نمازِ اشراق اور نمازِ چاشت

اکثر علماء نے اشراق اور چاشت کی نمازوں کو الگ الگ نماز شمار کیا ہے۔

طلوع آفتاب سے تقریباً میں منٹ بعد اشراق کی نماز ادا کی جاتی ہے جو سورج میں تیزی آنے تک پڑھی جاسکتی ہے۔ چاشت کی نماز کا وقت سورج میں تیزی آنے کے بعد سے زوالی آفتاب تک ہے۔

اشراق کے وقت ۲ یا ۳ رکعت ادا کریں۔ چاشت کی بھی چار رکعتیں ہیں،

اگرچہ بعض احادیث میں آٹھ رکعتوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس لئے ان اوقات میں اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے نفل نماز ادا کریں۔

* عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الْعَدَاءَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأْجِرٌ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٌ تَامَّةٌ تَامَّةٌ (رواه الترمذی) وقال هذا حديث غريب -
باب ذكر ما يستحب من للجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس).

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے پھر دو رکعت نفل پڑھتا ہے تو اسے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا: کامل حج اور عمرہ کا ثواب، کامل حج اور عمرہ کا ثواب، کامل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَانًا فَاعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ ، وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْنَا بَعْثَانًا قَطُّ أَسْرَعَ كَرَّةً وَلَا أَغْظَمَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثَانَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةٍ مِنْهُ وَأَغْظَمَ غَنِيمَةً؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ تَحْمَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ الْغَدَاءَ، ثُمَّ عَقَبَ بِصَلَاتِ الْضَّحَى فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ وَأَغْظَمَ الْغَنِيمَةَ (رواه ابن حبان في صحيحه - ذكر إثبات أعظم الغنيمة لعقب صلاة الغداة بركتي الضحي).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا جو بہت ہی جلد بہت سارا مال غنیمت لیکر واپس لوٹ آیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے کوئی ایسا لشکر نہیں دیکھا جو اتنی جلدی اتنا سارا مال غنیمت لیکر واپس لوٹ آیا ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بہت زیادہ مال غنیمت کانے والا شخص نہ بتاؤں؟ یہ وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد جاتا ہے، نجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر (سورج نکلنے کے بعد) اشراق کی نماز پڑھتا ہے، تو یہ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ نعمت کانے والا ہے۔

* عن معاذ بن انس الجهمي رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتِي الضُّحَى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا غَيْرَ لَهُ خَطَايَا، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرُ مِنْ زَيْدِ الْبَحْرِ (رواه ابو داود - باب صلاة الضحي).

حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا پھر دو رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے اس کے لگناہ معاف ہو جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہی ہوں۔

* عَنْ حُسْنِ بْنِ عَلَيْ رضي الله عنهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْغَدَاءَ ثُمَّ ذَكَرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَطَلَّعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ لَمْ تَمَسْ جِلْدُ النَّارِ (رواه البيهقي في شعب الایمان).

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے: جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر دو یا چار رکعت (اشراق کی نماز) پڑھتا ہے تو اس کی کھال کو (بھی) دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔

* عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفُكَ آخِرَهُ (رواه ابن حبان في صحيحه - ذکر ما یکفی المرء آخر النهار باربع رکعات یصلیہما من أوله ، رواه احمد في مسنده).

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: آدم کے بیٹے! دن کے شروع میں چار رکعت پڑھنے سے عاجز نہ ہو، میں تمہارے دن بھر کے کام بناووں گا۔

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثَتِ بِصِيَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الصَّحْنَى وَأَنْ أُونَتَ قَبْلَ أَرْقَدْ (رواه مسلم - باب استحباب صلاة الصحنی).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل علیہ السلام نے تین باتوں کی وصیت فرمائی ہے: ہر مہینے تین دن کے روزے رکھنا، اشراق کی دو رکعت ادا کرنا، سونے سے پہلے و تر پڑھنا۔

* عن أبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قالَ: أوصَانِي حَيْنَيْ بِثَلَاثَ لَنْ أَذْعُهُنَّ مَا عَشْتُ بِصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَةِ الصُّحَى وَبِأَنْ لَا أَنَامُ حَتَّى أَوْتِرَ (رواه مسلم - باب استحباب صلاة الصبح)

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب علیہ السلام نے تین باتوں کی وصیت فرمائی ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا: ہر مہینے تین دن کے روزے رکھنا، اشراق کی نماز ادا کرنا، سونے سے پہلے و تر پڑھنا۔

* عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّحَى أَرْبَعًا وَيَرِيدُ مَا شَاءَ اللهُ (رواه مسلم - باب استحباب صلاة الصبح)
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام اشراق کی چار رکعت نماز پڑھتے تھے اور کبھی زیادہ بھی پڑھتے تھے۔

* عن أبي ذِئْرِ رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فَكُلُّ تَسْبِيحةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيَجِزِيُّ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَاتٍ يَرْكَعُهُمَا مِنِ الصُّحَى (رواه مسلم - باب استحباب صلاة الصبح).

حضرت ابو رغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا: ہر صحیح سالم جوڑ یا ہڑی کے عوض ہر روز صبح کو تم پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ كہنا

صدقہ ہے، الْحَمْدُ لِلّهِ كہنا صدقہ ہے، لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ كہنا صدقہ ہے، اللّهُ أَكْبَرُ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے اور ان سب کے لئے وہ دو رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جنھیں کوئی چاشت کے وقت پڑھتا ہے۔

* عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الصُّحُى شَمَانِ رَكْعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ لَوْ نُشَرَّ لِي أَبُوَاهِي مَا تَرَكْتُهُنَّ (مؤطا مالک - باب صلاة الصحي).

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چاشت کی آخر رکعتاں پڑھا کرتی تھیں۔ پھر فرماتیں کہ اگر میرے والدین کو آرے سے چیزیں دیا جائے تو میں یہیں چھوڑوں گی۔

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَفَظَ عَلَى شُفْعَةِ الصُّحُى غُفرِتَ لَهُ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَخْرِ رواه ابن ماجہ والترمذی (الترغیب والترہیب - الترغیب في صلاة الصحي).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو چاشت کی دو رکعت پڑھتے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کردئے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاؤ کے برابر ہوں۔

زوال کی نماز

بعض علماء کی رائے کے مطابق، زوال کے بعد ظہر کی چار رکعت سنت مذکورہ کے علاوہ دو یا چار رکعت لٹھنماز پڑھنا بھی باعث ثواب ہے۔ یہ زوال کی نماز کہلاتی ہے۔

- حضرت عبد اللہ بن سائبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ زوال کے بعد چار رکعت پڑھتے تھے اور آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا: یہ وہ گھری ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس گھری میں میرا کوئی نیک عمل آسمان کی طرف جائے۔ (ترمذی - باب ما جاء في الصلاة عند الزوال)

مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل

مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت بہت قبیل وقت ہے، اسکو غنیمت سمجھ کر اس میں کچھ نوافل پڑھنا یقیناً اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

* ﴿نَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَطَاجِمِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعاً وَمَا دَرَّقْنَا لَهُمْ يَنْقُضُونَ﴾ (سورہ السجدة ۱۶)

ان کے پہلو سونے کی جگہ سے جدا رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ائمہ سے خیرات کیا کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت قادةؓ اور حضرت عمرۃؓ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء کے درمیان نقل نماز ادا کرنا ہے (تفہیم ابن کثیر، تفسیر فتح القدير)۔

علامہ ابن جوزی اپنی کتاب زاد المسیر ج ۲۳۹ صفحہ ۶ میں لکھتے ہیں: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف میں نازل ہوئی جو مغرب اور عشاء کے درمیان نقل نماز پڑھتے تھے۔ (نماز ہبیر صفحہ ۳۸)۔

محمد بن نصر المروزی (المتوفی ۲۹۲) نے قیام اللیل صفحہ ۵۶ پر بہت سے صحابہ کرام کا عمل نقل کیا ہے کہ وہ اس وقت میں نوافل پڑھتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرات صحابہ کرام مشرب کے بعد چار رکعت پڑھنے کو مستحب سمجھتے تھے (قیام اللیل صفحہ ۵۸)۔ (نماز ہبیر صفحہ ۳۸)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ اتنے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے بارہ سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ (ترمذی - فضل التطوع)

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن عمارؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسرؓ کو مغرب کے بعد چھر رکعت پڑھتے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے جبیب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو مغرب کے بعد چھر رکعت ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص مغرب کے بعد چھر رکعت پڑھ لے تو اسکے تمام گناہ معاف کردے جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

(الترغیب والترہیب - الترغیب فی الصلاۃ بین المغرب والعشاء)
 (وضاحت) مغرب کے بعد دو رکعت مت موکدہ کے علاوہ چار رکعت نوافل اور پڑھی جائیں تو پڑھو جائیں گی۔ بعض علماء کے خذ دیکھ یہ چھر رکعت مغرب کی دو رکعت مت موکدہ کے علاوہ ہیں۔

تحییۃ الوضوء اور تحییۃ المسجد

تحییۃ الوضوء (یعنی وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرنا) جنت میں لے جانے والا عمل ہے:

* عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَلَالَ: حدثني
 بأرجحِي عملَ عملتُه في الإسلام ، فإنِّي سمعتُ دفَّ تعليكَ بينَ
 يديَّ في الجنةِ . قالَ مَا عملتُ عملاً أرجحَ عندي أنِّي لمْ أُنْظَهُ
 طُهُوراً في ساعةٍ ليلٍ أو نهارٍ إلَّا صَلَّيْتُ بِذلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ
 ليَ أَصْلَى (رواه البخاري - باب فضل الطهور بالليل والنهر وفضل الصلاة
 بعد الوضوء / ومسلم - باب فضل بلاط).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک روز نمازِ فجر کے بعد حضرت بلاط رضی اللہ عنہ سے پوچھا: اے بلاط! اسلام لانے کے بعد اپناؤہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے

جو توں کی آہت سنی ہے۔ حضرت بالا رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب کسی وقت وضو کیا ہے تو اس وضو سے اتنی نماز (تحیۃ الوضو) ضرور پڑھی ہے جتنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت توفیق ملی ہے۔

* عن عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهْنِيِّ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْبِلُ عَلَيْهِمَا يَقْلِبِهِ وَوَجْهِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (رواہ النسانی - ثواب من أحسن الوضوء ثم صلی رکعتین)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر دو رکعت نماز پڑھے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنا:

* عن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (رواہ البخاری - أبواب التطوع - باب ما جاء في التطوع / و مسلم - باب استحباب تحیۃ المسجد).

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز ادا کرے۔

(وضاحت) اگر کوئی شخص ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہوا کہ جس میں نماز پڑھنا کروہ ہے تو اسے چاہئے کہ وہ تحیۃ المسجد نہ پڑھے۔ اگر کسی نے مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے فرض نماز یا سنت یا کوئی دوسرا نماز ادا کر لی تو تحیۃ المسجد بھی اسی میں ادا ہو جائیگی۔

نمازِ جمعہ

* بِاَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوَدِّيَ الصَّلَاةُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْتَعِوْنَا
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَمْ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونْ
(سورة الجمعة ۹)

اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کی اذان دیجائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف
دوڑ پڑو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ تہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔
وضاحت ۱) دوڑنے سے مراد پورے اہتمام اور مستعدی کے ساتھ جانا ہے، بھاگنا مراد نہیں
کیونکہ احادیث میں نماز کے لئے وقار اور سکون کے ساتھ آنے کی تاکید کی گئی ہے۔

احادیث شریفہ:

* عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا
يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهُورِ
وَيَدْهَنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمْسُ مِنْ طِينِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرَّقُ
بَيْنَ الشَّتَّىِنِ، ثُمَّ يُصْلِي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ
إِلَّا غُفرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (رواہ البخاری - باب الدهن
ل الجمعة).

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، بھتنا ہو سکے پا کی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر
سے خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے۔ مسجد مکنی کر جو دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں ان
کے درمیان میں نہیں بیٹھتا، اور جتنی توفیق ہو جمعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ

دیتا ہے اس کو توجہ اور خاموشی سے نہتا ہے تو اس جمعہ سے گر شنہ جمعہ تک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔

* عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رضِيَ اللَّهُعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غَيْرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (رواه مسلم - باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، پھر مسجد میں آیا، اور جتنی نماز اس کے مقدار میں تھی ادا کی، پھر خطبہ ہونے تک خاموش رہا اور امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی، اس کے جمعہ سے جمعہ تک اور مزید تین دن کے گناہ بخش دئے جاتے ہیں۔

﴿وَضَاحَتْ﴾ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اگر موقعیں جائے تو جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے چند رکعتیں ضرور ادا کر لینی چاہئیں۔

* عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَحْقَنِي عَبَّاَيَةُ بْنُ رَفَاعَةَ بْنَ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ عَنْهُ مَاشَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَبْشِرْ فَإِنَّ خُطَابَكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سَمِعْتُ أَبَا عَبَّاسَ رضِيَ اللَّهُعَنْهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اغْتَرَتْ قَمَاءَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ (رواه الترمذی - بلب ما جاء في فضل من اغترت قدماء في سبيل الله وقال هذا حديث حسن صحيح غريب).

حضرت یزید بن ابی مریم "فرماتے ہیں کہ میں جمعکی نماز کے لئے پیدل جا رہا تھا کہ حضرت عبایہ بن رافع "مجھے مل گئے اور فرمانے لگے جسمیں خوشخبری ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ تعالیٰ

کے راستے میں ہیں۔ میں نے ابو عبس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آکر وہ ہوئے تو وہ قدم جہنم کی آگ پر حرام ہیں۔ (وضاحت) اسی مضمون کی روایت کچھ الفاظی اختلاف کے ساتھ (صحیح بخاری - باب الحشی الى الجمعہ) میں بھی مذکور ہے۔

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِبْ وَالإِمَامُ يَخْطُبْ فَقَدْ لَغَوْتَ (رواہ البخاری - باب الانصات یوم الجمعة والامام يخطب / مسلم - باب في الانصات یوم الجمعة في الخطبة)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے روز دورانی خطبہ پنے ساتھی سے کہا (خاموش رہو) اس نے بھی نوکام کیا۔ یعنی دورانی خطبہ کی طرح کی بھی بات کرنا حتیٰ کہ بصیرت کرنا بھی منع ہے۔

* عَنْ مُعاذِ بْنِ أَنَسِ الْجَهْنَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ (رواہ الترمذی - باب ما جاء في كرايبة الاحتباء والإمام يخطب).

حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ کے دوران گوٹھ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ (وضاحت) آدمی اپنے گھنٹے گھنٹے کر کے رانوں کو پہیت سے لگا کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لے تو اسے گوٹھ مارنا کہتے ہیں۔

* عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُشْرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا إِلَى حِنْبِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إجتنس فقد آذنت وآذنت (رواه ابن حبان - ذكر الزجر عن تخطي المرء رقاب الناس يوم الجمعة في

قصده للصلوة)

حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن منبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص لوگوں کی گروپ کو پھلانک کروآیا اور رسول اللہ ﷺ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیٹھ جاؤ تو نے تکلیف دی اور تاخیر کی۔

جب امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کی گروپ کو پھلانگ کر آگے جانا شد ہے، بلکہ یہ پچھے جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں۔ یاد رکھیں کہ نمازِ جمعہ کے لئے خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد پر کچھ پر جمعہ کی فضیلت سے محروم رہتی ہے۔ صفحہ ۵۵ پر تفصیل مذکور ہے۔

جمعہ چھوڑنے پر ویدیں:

* عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يختلفون عن الجماعة لقد همنت أن أمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يختلفون عن الجماعة بيوتهم (رواه مسلم - باب فضل صلاة الجمعة وبيان التشديد في التخلف عنها).

حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلاڈالوں۔

* عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأبا هريرة رضي الله عنه حدثنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعوان منبره: لينتهي أقوام عن وذعيهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكون من الغافلين (رواه مسلم - باب التقليظ في ترك الجمعة).

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ منبر کی سیڑھیوں پر فرمائے تھے: خبردار! لوگ جسہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگادے گا، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔

* عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الْضَّمْرَىِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَّاً تَهَاوَنَ بِهَا طَبَاعُ اللَّهِ عَلَىٰ قَلْبِهِ (رواه النساني - باب التسديد في التخلف عن الجمعة / ورواه أيضاً أحمد أبو داود وابن ماجة والترمذی).

حضرت ابو جعد ضمری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے تین جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دئے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگادے گا۔

سُنْنَةِ جُمُعَةٍ:

(۱۲۳ اور ۱۲۵) صفحہ پر مذکور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز سے قبل با برکت گھڑیوں میں حتیٰ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ سکیں، پڑھیں۔ کم از کم خطبہ شروع ہونے سے پہلے چار رکعتیں تو پڑھہ ہی لیں جیسا کہ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ صفحہ ۱۳۱) میں مذکور ہے: حضرت ابراہیم "فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نمازِ جمعہ سے پہلے چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ (نماز پیغمبر صفحہ ۲۷۹)۔ نمازِ جمعہ کے بعد دو رکعتیں یا چار رکعتیں یا چھ رکعتیں پڑھیں، یہ تینوں عمل نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ چھ رکعت پڑھ لیں تاکہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے اور چھ رکعتوں کا ثواب بھی مل جائے۔

* عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ (رواه مسلم - باب الصلاة بعد الجمعة).

حضرت سالم آپے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جمہ کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے۔

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصْلِلْ بَعْدَهَا أَرْبَعاً (رواہ مسلم - باب الصلاة بعد الجمعة).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم سے کوئی جمہ پڑھ لے تو اس کے بعد چار رکعتیں پڑھے۔

* عن عطاء أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْهَا عَنِ الْمُصَلَّاهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ فَلِنَالْغَيْرِ كَثِيرٌ، قَالَ: فَيَرْكعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: ثُمَّ يَمْشِي أَنفَسَ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْكعُ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ، قَلْتُ لِعَطَاءَ: كَمْ رَأَيْتَ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما وَيَصْنَعُ ذَلِكَ؟ قَالَ مِرَارًا (رواہ ابو داؤد - باب الصلاة بعد الجمعة).

حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جمہ کے بعد نماز پڑھتے دیکھا کہ جس مصلیٰ پر آپ نے جمہ پڑھا اس سے تھوڑا سا بہت جاتے تھے۔ پھر دو رکعتیں پڑھتے، پھر چار رکعتیں پڑھتے تھے۔ میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ آپ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کتنی مرتبہ ایسا کرتے دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ بہت مرتبہ۔ اسی لئے علامہ ابن تیمیہ "فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے جمہ کے بعد چار رکعتیں پڑھنی چاہئیں، اور حضرات صحابہ کرام سے چھ رکعتیں بھی منقول ہیں۔ (مختصر فتاویٰ ابن تیمیہ، صفحہ ۷۹)۔ (نماز پیغمبر صفحہ ۲۸۱)۔

نمازِ تراویح

* عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفْرَانَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه البخاري - باب فضل من قام رمضان / مسلم - باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويف).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے (عبادت کے لئے) کھڑا ہو (یعنی رات کو نمازیں پڑھے) اس کے پچھے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔

* عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنَتُ لَكُمْ قِيَامَةً ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيْوِمٍ وَلَذْنَةٍ أُمَّةٍ (رواه النسائي - باب ذکر اختلاف یحیی بن ابی کثیر / وابن ماجہ - باب ما جاء في قيام شهر رمضان).

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کئے ہیں اور (رات میں) قیام کا طریقہ میں نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے۔ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے اس دن جب پیدا ہوا تھا۔

فی قدر:

* إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفَرْشَطِرِ. تَدْرَلُ الْمَالِكَةُ وَالرُّؤُومُ فِيهَا يَأْفَنُ وَبَعْثَمُ وَنَ

كُلُّ أَمْرٍ. سَلَامٌ وَيَ هَنَئُ مَطْلَعَ الْفَجْوِ. (سورة القدر)

بیک ہم نے قرآن پاک کو ہب قدر میں اتارا ہے۔ (یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے سایو دنیا پر ہب قدر میں اترا ہے) آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ ہب قدر کیسی بڑی چیز ہے۔ ہب قدر ہزار ہزاروں تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ ہب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ (یعنی ہزار ہزاروں تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرايل عليه السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لیکر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ یہ رات سر اپا سلام ہے، اور فجر کے طلوع ہونے تک (ان ہی برکات کے ساتھ) رہتی ہے۔

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَامَ لِلَّيْلَةِ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفرَ لَهُ مَا نَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه البخاري - باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے (عبادت کے لئے) کھڑا ہو (یعنی رات کو نمازیں پڑھے) اس کے پھر تمام گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں۔

* عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّهُعَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَحَرَّوْنَا لِلَّيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتَرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّلِ خِرِّ مِنْ رَمَضَانَ (رواه البخاري - باب تحری ليلة القدر في الوتر من العشر الأولى).

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں حلش کیا کرو۔

* عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّهُعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي

رمضان مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ ، وَفِي الْعَشْرِ الْأُوَّلِيِّ مِنْهُ مَا
لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ (رواه مسلم - باب الاجتهاد في العشر الأولى من شهر رمضان)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان میں اتنی عبادت
کرتے تھے حتیٰ دوسرا ہمینوں میں نہیں کرتے تھے اور رمضان کے آخری عشرہ میں رمضان
کے دوسرے عشروں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔

نمازِ عیدِ یٰن (صلاتۃ العیدین)

دو یوں عیدوں میں طلوع آفتاب کے پچھے بعد اور زوال سے پہلے بغیر اذان
واقامت کے زائد بکیروں کے ساتھ دو رکعت نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے، اور اسکے بعد
امام دو خطبے دیتا ہے، جس کا سننا ضروری ہے۔

* عن أنسٍ رضي الله عنه قال: قدمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ
يَوْمٌ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: مَا هَذَا النِّيْمَانِ؟ قَالُوا كَنَّا نَلْعَبُ
فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ
بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ (رواه ابو داود - باب
صلاتۃ العیدین).

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے
(تو دیکھا ک) اہل مدینہ نے دو دن کھیل تاشے کے لئے خاص کر کے تھے۔ آپ ﷺ نے
پوچھا کہ دونوں کی حقیقت کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت سے ہم نے ان دنوں کو
کھیل تاشے کے لئے مختص کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں
ان دنوں کے بجائے دو بہتر دن عطا فرمائے ہیں: عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔

نماز حاجت (صلوة الحاجة)

زندگی میں اگر کوئی مشکل یا پریشانی سامنے آئے تو ہر ایمان والے کو چاہئے کو وہ اس پر صبر کرے اور اللہ کی ذاتی عالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اسی سے مدد چاہے اور اسی سے سوال کرے کیونکہ صرف وہی مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑی بنانے والا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دنیاوی اور اخروی ضرورت کو مانگنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نمازِ اطمینان، سکون اور خشوع و خضوع سے پڑھکر خوب عاجزی وزاری کے ساتھ اللہ جل جلالہ شانہ سے دعا کرے۔

* عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِّنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلَيُخْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لَيُصْلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَيُثْنِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَيُصْلِّ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ لَيُقُولَ:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيلُ الْكَرِيمُ. سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَسْتَغْفِرُكَ رَحْمَتَكَ وَعَزَّازَتِكَ مَغْفِرَتَكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًا إِلَّا فَرَجَتْهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضاً إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

(رواہ الترمذی - ما جاء في صلاة الحاجة ، وابن ماجہ - ما جاء في صلاة الحاجة)

حضرت عبد اللہ بن ابی او فی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے یا کسی آدمی سے کوئی حاجت ہو تو وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر دو رکعت نمازاً کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر بیان کرے، رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجے

اور یہ دعا پڑھے (ترجمہ): اللہ کے سوا کوئی مجبود نہیں، وہ بہت بر دبار اور نہایت کرم کرنے والا ہے، (ہر عیب سے) پاک اور عرشِ عظیم کا مالک ہے، تمام تحریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ (یا اللہ!) میں مجھ سے تیری رحمت کے اسباب اور تیری بخشش کے وسائل، نیز ہر نیکی سے حصہ پانے اور ہر گناہ سے حفظ رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین! میرے تمام گناہ معاف فرمادیجھے، میری ساری پریشانیاں دور کر دیجھے، اور میری تمام ضرورتیں جو تیری پسندیدہ ہوں پوری فرمادیجھے۔

* عن أبي الدَّرْدَاءِ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَلَا سُبْغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتَمَّمُهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سُأْلَ مُتَحَلِّلاً أَوْ مُؤَجَّلًا (رواه احمد في مسنده - ج 6 / صفحة 442).

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر خشوع و خضوع سے دو رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کرے گا، جلد یا دیر سے۔ (جیسے چاہے)۔


نمازٌ تسبّح (صلوة التسبّح)

* عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ لِعَبَّاسِ
 بنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: يَا عَبَّاسَ يَا عَمَّا! أَلَا أَغْطِيكَ ، أَلَا أَمْنِحُكَ ،
 أَلَا أَخْبُوكَ ، أَلَا أَفْعُلُ بِكَ عَشْرَ حِصَالٍ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ
 لَكَ ذَنْبَكَ أُولَئِكَ وَآخِرَهُ ، قَدْيَمَهُ وَحَدِيثَهُ ، خَطَأَهُ وَعَمَدَهُ ، صَغِيرَهُ
 وَكَبِيرَهُ ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ ، عَشْرَ حِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّي أَرْبَعَ
 رَكْعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً ، فَإِذَا فَرَغْتَ
 مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أُولَئِكَ الرَّكْعَاتِ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ
 لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، خَمْسَةٌ عَشْرَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ
 فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا
 عَشْرًا ، ثُمَّ تَهُوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ
 رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ
 تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ
 رَكْعَةٍ. تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ. إِنِّي أَسْتَطَعْتُ أَنْ تُصَلِّيَنِي فِي
 كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَأَفْعَلُ، فَإِنِّي لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنِّي لَمْ
 تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنِّي لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنِّي
 لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً. (رواوه الترمذى - باب ما جاء في صلاة التسبّح /
 وابن ماجة - باب ما جاء في صلاة التسبّح / وأبو داود - باب صلاة التسبّح).

حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے

حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے میرے چچا عباس! کیا میں تمہیں ایک تھکہ، ایک انعام اور ایک بھلائی یعنی ایسی دس خصلتیں نہ بتاؤں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ پہلے اور بعد کے، نئے اور پرانے، دانتے اور نادانتے، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر سب معاف فرمادے۔ وہ دس خصلتیں یہ ہیں کہ آپ چار رکعت نماز ادا کریں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورہ پڑھیں۔ جب آپ یہی رکعت میں قراءت سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں پندرہ مرتبہ یعنی تسبیح پڑھیں (شُبْخَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ). پھر رکوع کریں، (شُبْخَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ) کہنے کے بعد رکوع ہی میں دس مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع سے سرا اٹھائیں اور (قوم کے کلمات ادا کرنے کے بعد پھر) دس مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد سجدہ کریں (تجده میں شُبْخَانَ رَبِّي الْأَعْلَى کہنے کے بعد) دس مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدہ سے اٹھکر دس مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں۔ دوسرے سجدہ میں جا کر (شُبْخَانَ رَبِّي الْأَعْلَى کہنے کے بعد) دس مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدہ سے سرا اٹھائیں اور دس مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس طرح ایک رکعت میں تسبیحات کی کل تعداد پھر (۷۵) ہو گئی۔ چاروں رکعتوں میں آپ یہی عمل دھرا گئیں۔

(اے میرے چچا!) اگر آپ ہر روز ایک مرتبہ نماز تسبیح پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو جمعہ میں ایک بار پڑھیں۔ اگر ہفتہ میں بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر ہر مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھیں۔ اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھیں۔ اگر سال میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکیں تو ساری زندگی میں ایک بار پڑھ لیں۔



نمازِ استخارہ (صلوٰۃ الاستخارۃ)


جب بھی کوئی اہم کام درپیش ہو تورات کو سونے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھکر دعائے استخارہ پڑھیں، اور سوچائیں۔ انشاء اللہ اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کے سلسلہ میں خواب میں کچھ اشارہ ہو جائیگا یا پھر طبیعت کا میلان ورجنان کسی ایک طرف ہو جائے گا۔ بس وہی کام کریں، انشاء اللہ اسی میں خیر و بھلائی ہو گی۔ مگر پہلے ہی دن بات واضح ہو جائے، یقینی نہیں، بلکہ کئی مرتبہ ایسا کرنا پڑ سکتا ہے۔

* عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله يعلمُنا الاستخارَة في الأمور كلها كما يعلمنَا السُّورَة من القرآن يقول: إذا هم أخذكم بالأمر فليرْكعْ ركعتَينِ من غيرِ الفريضة ثم ليقلُ اللهم آنِي استَخِرُوكَ بعلْمك وأسْتَفِدُوكَ بقدرتك وأسْتَأْنِوكَ من فضلك الْفَظِيلِيْم فِيْكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أُمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أُمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَافْدِرْ لِي الْخَيْرَ حِينَ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ (رواه البخاري - باب الدعاء عند الاستخاراة / رواه الترمذی و ابن ماجة والنسائي وأبو داود)

حضرت جابر رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میں تمام کاموں کے لئے اس

طرح استخارہ کرنا سکھاتے جس طرح قرآن پاک کی کوئی سورہ سکھاتے تھے۔ آپ ﷺ فرماتے: جب کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نفل ادا کرے پھر یہ دعا مانگے: (ترجمہ) یا اللہ! میں تیرے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں، تیری قدرت کی برکت سے (اپنا کام کرنے کی) طاقت مانگتا ہوں، مجھ سے تیرے فضلِ عظیم کا سوال کرتا ہوں، یقیناً تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو ہی غیب کو جانے والا ہے۔ یا اللہ! تیرے علم کے مطابق اگر یہ کام (میرے حق میں دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے یا آپ ﷺ نے فرمایا جلد یا دیر میں میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرا مقدر بنادے، اس کا حصول میرے لئے آسان فرمادے، اور اسے میرے لئے با برکت بنادے۔ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لئے دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے نقصان دہ ہے یا آپ ﷺ نے فرمایا جلد یا دیر میں میرے لئے نقصان دہ ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور میری سوچ اس طرف سے پھیر دے اور جہاں کہیں سے ممکن ہو بھلائی میرا مقدر بنادے اور مجھے اس پر مطمئن کر دے۔

(دورانِ دعا ہذا الامر کی جگہ اپنے کام کا ذکر کریں یاد میں اس کا خیال کریں)۔



نمازِ توبہ (صلات القویۃ)

ہر انسان غلطی کر سکتا ہے مگر مسلمان کی شان یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بلکہ اپنے کئے ہوئے گناہ پر نادم ہو کر آئندہ سیدھے راستے پر چلنے کا عہد کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ توبہ واستغفار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دور کعت نماز پر حکمر اللہ تعالیٰ سے مفترت کی دعائیں مانگی جائے۔

* عن أبي بكرٍ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ما من عبد يذنب ذنباً فتحسن الطهور ثم يَقُومُ فِي صَلَاتِ رَكْعَتَيْنِ،
ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَا هَذِهِ الْآيَةَ: وَالَّذِينَ إِذَا
فَعَلُوا فَاجْشَنُوا أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ
(رواہ أبو داود - باب فی الاستغفار).

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے، پھر وہ ابھی طرح وضو کرے اور الحکم دور کعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادیتے ہیں۔

اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

(ترجمہ) اور وہ بندے (جن کا حال یہ ہے) کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی برا کام کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلد ہی انہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے طالب ہوتے ہیں اور بات بھی یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اور برے کام پر وہ اڑتے نہیں، اور وہ لیکن رکھتے ہیں (کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں)۔

نمازِ استسقاء (صلوة الاستسقاء)

استسقاء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنا۔ اگر کبھی بارش نہ ہو اور بارش کی ضرورت ہو تو نہایت عاجزی اور مسکینی کی حالت میں شہر سے باہر نکل کر دو رکعت نمازِ استسقاء ادا ان واقامت کے بغیر با جماعت ادا کریں، نماز کے بعد گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اور نیک قال کے طور پر اپنی اوڑھنے والی چادر کا رخ بدل لیں یعنی دائیں جانب کو بائیں اور بائیں جانب کو دائیں طرف کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو اپنے رحمت والے بادلوں کا رخ ہماری طرف کر دے۔

* عن عبدِ بن تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَاسْتَفَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَّبَ رِدَائِهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
(رواه مسلم - باب صلاة الاستسقاء).

حضرت عباد اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ مصلی (عیدگاہ) کی طرف تشریف لائے اور بارش کی دعا مانگی، قبلہ رخ ہوئے اپنی چادر کا رخ بدل لے اور دو رکعت نماز پڑھی۔

* عن أبي هُرَيْزَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي وَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةَ ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَ اللَّهَ وَحْوَلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ قَلَّبَ رِدَائِهِ فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ (رواه ابن ماجہ - صلاة الاستسقاء).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ استسقاء کے لئے نکلے اور اذان واقامت کے بغیر دو رکعت نماز با جماعت پڑھائی۔ پھر ہمیں فصیحت کی اور دعا کی۔ پھر قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اور اپنی چادر کا رخ بدل لیعنی دائیں طرف کو بائیں کندھے پر اور بائیں جانب کو دائیں کندھے پر کیا۔

سورج وچاندگر ہن کی نماز (صلوٰۃ الخسوف والكسوف)

جب بھی سورج یا چاندگر ہن ہو جائے تو مسلمانوں کو چاہئے کہ خالق کائنات کی طرف متوجہ ہوں، دو رکعت نماز اذان واقامت کے بغیر با جماعت ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں۔ (دو رکعت سے زیادہ چار یا آٹھ رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں)۔

اس نماز میں قراءت، رکوع اور سجدہ وغیرہ کو اتنا لمبا کرنا چاہئے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی گرہن ختم ہو جائے، کیونکہ نبی اکرم ﷺ سے اسی طرح ثابت ہے۔

* عن أبي بكرَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَسَقَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْرُّ رِدَائِهِ حَتَّى اتَّهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَتَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِ رَكْعَتَيْنِ ، فَانْجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ مَدْعُوُّهُ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أَيْتَانٌ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفُانَ لِمَوْتِ أَحَدٍ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُنَكِّشَفَ بِكُمْ . وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَأَ لِلنَّبِيِّ مَاتَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ (رواہ البخاری - باب الصلاة فی کسوف القمر).

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا۔ آپ ﷺ اپنی چادر گھستئے ہوئے (تیزی سے) مسجد پہنچے۔ صحابہ کرام آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ ﷺ نے انھیں دو رکعت نماز پڑھائی اور گرہن بھی ختم ہو گیا۔ اسکے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نمائیوں میں سے دونٹاں ہیں۔ کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتے (بلکہ زمین اور آسمان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور ان کی روشنی و تاریکی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے) اسلئے جب سورج اور چاند گرہن ہو تو اس وقت تک نماز اور دعائیں مشغول رہو جب تک ان کا گرہن ختم نہ

ہو جائے۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات (اسی دن) ہوئی تھی اور بعض لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ گرہن ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔

* عن عائشة رضي الله عنه قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم (بعد الصلاة): إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسنان لمونت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكربروا وادعوا وصلوا وتصدقا
(رواه مسلم - باب صلاة الكسوف).

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا..... نماز سے فارغ ہو کر آپ ﷺ نے فرمایا: سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دونثانیاں ہیں۔ یہ دونوں کی کمر نے یا پیدا ہونے سے گرہن نہیں ہوتے۔ اے لوگو! جب تم کو یہ موقعہ پیش آئے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، دعا مانگو، محکیم و چلیل کرو، نماز پڑھو اور صدقہ و خیرات ادا کرو۔

نماز جنازہ

* عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ لِيمَانًا وَاحْتَسَابًا ، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصْلَى عَلَيْهَا وَيَفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَخْرِ يَقِيرَاطِينَ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحَدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ يَقِيرَاطِينَ (رواه البخاري - باب اتباع الجنائز من الإيمان).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے ساتھ چلا یہاں تک کہ اسکی نماز جنازہ پڑھی اور اسکو دفن کرنے میں بھی شریک رہا تو وہ دو قیراط اجر (ثواب) لیکر لوٹتا ہے اور ہر قیراط احمد بہادر کے پر ابر ہے۔ اور جو شخص نماز جنازہ میں شریک ہوا مگر دفننے سے پہلے ہی واپس آگیا تو وہ ایک قیراط اجر (ثواب) کے ساتھ لوٹتا ہے۔

* عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَيْتٍ يُصْلَى عَلَيْهِ أَمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَتَلَّغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَسْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ (رواه مسلم - باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه).

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر کسی میت کے جنازہ میں ۱۰۰ مسلمان شریک ہو کر اس میت کے لئے شفاعت کریں (یعنی نماز جنازہ پڑھیں) تو ان کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

* عن عبد الله بن عباسِ رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ ، فَيَقُولُمْ عَلَى جَنَازَتِهِ

أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ (رواه مسلم
- باب من صلی علیہ اربعون شفعوا فیہ).

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اگر کسی مسلمان کے انقال پر ایسے چالیس آدمی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت (دعا) کو اس میت کے حن میں قبول فرماتے ہیں۔

* عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَسْلَمَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلِيَّةَ وَمُلْمِنَ
قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً ، وَمَنْ
كَفَنَ مَيْتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سَنْدِسٍ وَاسْتَبَرَقَ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ حَفَرَ
لَمَيْتَ فَنَرَأُ فَاجْنَهُ فِيهِ أَجْرَى اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأْجِرِ مَسْكَنٍ
أَسْكَنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رواه الحاکم وقال صحيح على شرط مسلم (الترغیب
والترہیب - الترهیب فی حفر القبور وتنفسیل الموتی وتكلفیهم).

حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کسی میت کو خسی دیا اور اسکے عیوب کی پرده پوشی کی تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس مرتبہ مغفرت فرمائیں گے۔ اور جس شخص نے کسی میت کو کفن پہنایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ہاریک اور دیپریشم کا لباس پہنائیں گے۔ اور جس نے میت کے لئے قبر تیار کی اور اسے دفنایا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی کو رہائش دینے کے برابر قیامت تک صدقہ جاریہ کا ثواب دیں گے۔



اوقداتِ مکروہ

نماز کے مکروہ اوقات پانچ ہیں: ان میں سے تین ایسے ہیں جن میں فرض اور نفل دونوں نمازوں مکروہ تحریکی ہیں۔ وہ تین اوقات یہ ہیں:

۱) سورج کے طلوع ہونے کے وقت۔

۲) زوال آفتاب کے وقت۔

۳) سورج کے غروب ہونے کے وقت۔

(وضاحت) اگر عصر کی نمازوں پڑھی جہاں تک کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب آگیا تو کراہت کے ساتھ اس دن کی عصر کی نماز سورج کے ڈوبنے کے وقت بھی ادا کی جاسکتی ہے۔

ان اوقات کے علاوہ دو اوقات ایسے ہیں کہ جن میں صرف نفل نماز پڑھنا مکروہ

ہے، البتہ فوت شدہ فرض نماز کی اقاضا پڑھ سکتے ہیں۔

۱) نمازِ مجر کے بعد طلوع آفتاب تک ہر طرح کی نفل نماز مکروہ ہے۔

۲) عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک ہر نفل نماز مکروہ ہے۔

☆ حضرت عمر و سلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: اے اللہ کے نبی ﷺ مجھے اسکی چیز بتائیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہو اور مجھے معلوم نہ ہو، خاص طور پر نماز کے متعلق بتائیے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: صبح کی نماز پڑھ کر کوئی اور نماز پڑھنے سے زکر ہو تو آنکہ آفتاب طلوع ہو کر بلند ہو جائے، کیونکہ آفتاب شیطان کے دو سینکوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت سورج پرست کفار اسے بجھہ کرتے ہیں۔ جب سورج کچھ بلند ہو جائے تو پھر نماز پڑھو کیونکہ ہر نماز بارگا والی میں پیش کی جاتی ہے، البتہ جب نیزہ بے

سایہ ہو جائے (زوال کے وقت) تو نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ جنم کو دہکانے کا وقت ہے اور جب سایہ پڑھنا شروع ہو جائے تو پھر نماز پڑھو، کیونکہ نماز اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ جب عصر کی نماز پڑھ چکو تو پھر دوسرا نماز سے رک جاؤ تا آنکہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے دوستکوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت سورج پرست کفار سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ (مسلم۔ الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها)

☆ حضرت ابوسعید خدري رضي الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سن: صبح کی نماز کے بعد آفتاب کے بلند ہونے تک اور کوئی نماز نہیں ہے اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک اور کوئی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ (بخاری۔ لایتحری الصلاة قبل الغروب)۔

نمازی کے سامنے سے گزرنے کی سزا

- حضرت ابو جہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر جان لے کر اس پر کتنی بڑی سزا ہے تو وہ اس کے سامنے سے گزرنے کی بجائے چالیں تکٹکھرا رہتا، تو یہ بہتر ہتا۔ (موطا مالک، باب التشديد في ان يمر احد بين يدي المصلى ابوالنصر) کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، آپ کی مراد چالیں ون تھی یا چالیں مہینہ یا چالیں سال۔

- حضرت کعب احبار ڈ فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس پر کتنی ختم سزا ہے تو اس کے بد لے اگر وہ زمین میں ڈھنس جائے تو اس کے سامنے سے گزرنے سے یہ بہتر ہے۔ (موطا مالک، باب التشديد في ان يمر احد بين يدي المصلى)

بعض شبہات کا ازالہ

(۱) نماز کی ادائیگی میں کہنا یا نہ کہنا۔

بعض حضرات جو نماز نہیں پڑھتے، سمجھانے پر کہتے ہیں کہ جمعہ سے یا رمضان سے یا سال کی ابتداء سے نماز کا اہتمام کریں گے۔ حالانکہ کسی کو نہیں معلوم کہ کس وقت اس دارِ قافی (دنیا) کو الوداع کہنا پڑے۔ اگر ایسے وقت میں ملک الموت (موت کا فرشتہ) ہماری روح نکالنے آیا کہ ہمارا مولا ہم سے نمازوں کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے ناراض ہے تو پھر ہمارے لئے انتہائی خسارہ اور نقصان ہے۔ اور موت کب آجائے، ہوا نے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: کوئی (بھی) نہیں جانتا کہ کل کیا (کچھ) کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم کہ کس زمین میں مرے گا (سورہ لقمان، آیت نمبر ۳۲۲)۔ اور ہر گروہ کے لئے ایک میعادِ معین ہے سو جس وقت ان کی میعادِ معین آجائیگی، اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے (سورہ الاعراف، آیت نمبر ۳۲۲)۔

لہذا ان حضرات سے اجابت ہے کہ کسی دن یا کسی وقت پر اپنے ارادہ کو معلق نہ کریں بلکہ پچھے دل سے توبہ کر کے آج سے بلکہ ابھی سے نمازوں کا خاص اہتمام فرمائیں کیونکہ نماز، دین اسلام کا عظیم رکن ہے، (ایمان کے بعد) اس کی فرضیت سب سے پہلے ہوئی اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کا حساب لیا جائیگا۔

یاد رکھیں کہ جو شخص نماز میں کوتا ہی کرتا ہے، وہ یقیناً دین کے دوسرا کاموں میں بھی سستی کرنے والا ہوگا۔ اور جس نے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کر لیا، وہ یقیناً پورے دین کی حفاظت کرنے والا ہوگا جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنوں کو حکم جاری فرمایا تھا کہ میرے نزدیک تھہارے امور میں سب سے زیادہ اہمیت

نماز کی ہے، جس نے نماز کی پابندی کر کے اسکی حفاظت کی، اس نے پورے دین کی حفاظت کی اور جس نے نمازوں کو ضائع کیا وہ نماز کے علاوہ دین کے دیگر ارکان کو زیادہ ضائع کرنے والا ہو گا۔

۲) نمازوں کی صورتوں کو ترجیح دینا۔

بعض حضرات سے جب نماز کے اہتمام کرنے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ والدین کی خدمت، بچوں کی تربیت اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کوشش کرنا بھی تو ضروری ہے۔ ایکسیں کوئی مشکل نہیں کہیرا امور بھی ضروری ہیں مگر ان اعمال کے لئے نمازوں کو ترک کرنا یا نماز کی اہمیت کو کم سمجھنا کوئی عقلمندی ہے؟ حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام نہ صرف فرض نماز کی پابندی فرماتے بلکہ سنن و نوافل کا بھی خاص اہتمام فرماتے اور اپنے گھروں والوں کے حقوق کا حقدار ادا کرتے۔ اور انھیں حضرات کی زندگیاں ہمارے لئے نمونہ ہیں۔

☆ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ ہم سے باتمیں کرتے تھے اور ہم حضور سے باتمیں کرتے تھے لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ ﷺ ایسے ہو جاتے گویا ہم کو پہچانتے ہیں اور ہمہنکی طرف مشغول ہو جاتے۔ (فضائل نماز)

☆ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا اللہ کو کو ناس عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نمازوں کے وقت پر ادا کرنا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس کے بعد کو ناس عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: والدین کی فرمانبرداری (بخاری وسلم) یاد رکھیں کہ نمازوں کو تباہی کر کے گھروں والوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنا دین نہیں بلکہ دین اسلام کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ایمان والوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں (سورہ المنافقون آیت ۹)۔ لہذا دنیاوی ضرورتوں کو نمازوں پر فویت نہ دیں بلکہ نمازوں کو وقت پر ادا کریں۔

بعض حضرات یہاری میں نماز کو بالکلیہ ترک کر دیتے ہیں حتیٰ کہ نماز پڑھنے والا بطبقہ بھی نماز کا اہتمام نہیں کرتا حالانکہ صحت و تدرستی کی طرح یہاری کی حالت میں بھی نماز کو ان کے اوقات میں پڑھنا ضروری ہے، البتہ شریعت اسلامیہ نے اتنی اجازت دی ہے کہ شدید یہاری کی وجہ سے مسجد جانا مشکل ہے تو گھر میں ہی نماز ادا کر لیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو پیغمبر نماز پڑھیں۔ بیٹھ کر بھی نماز پڑھنا مشکل ہے تو لیٹ کر حتیٰ کہ اشارہ سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس کو ضرور ادا کریں۔

☆ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بو اسیر کا مریض تھا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز پڑھنے کا مسئلہ دریافت کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکو تو کھڑے ہو کر پڑھو، پیغمبر پڑھ سکو تو بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھ سکو تو لیٹ کر پڑھو (بخاری، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ)۔

☆ نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام سخت یہاری کی حالت میں بھی جماعت سے نماز ادا کرنے کا اہتمام فرماتے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم تو اپنا حال یہ دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلمنا مخالف ہوتا وہ تو جماعت سے رہ جاتا یا کوئی سخت یہاری ورنہ جو شخص دو آدمیوں کے سہارے سے گھشتا ہوا مسجد جا سکتا تھا وہ بھی صرف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ لہذا صحت ہو یہاری، خوشی ہو یا غم، تکلیف ہو یا راحت، سردی ہو یا گرمی سب برداشت کر کے نمازوں کا اہتمام کریں۔

سفر میں بھی نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے، مگر شرم یا لاپرواہی کی وجہ سے نماز پڑھنے والے بھی سفر میں نماز کا اہتمام نہیں کرتے حالانکہ حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام سفر میں حتیٰ کہ

دشمنوں سے جنگ کے عین موقع پر بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے۔

لہذا سفر میں بھی نماز کی پابندی کریں، پانی مہیا نہیں تو تمیم کر کے نماز ادا کریں، قبلہ کا رخ معلوم نہیں اور کوئی شخص بتانے والا بھی نہیں تو غور و فکر کے بعد قبلہ کا تعین کر کے اسی طرف نماز پڑھیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں تو پہنچرہ ہی ادا کریں۔

﴿وضاحت﴾ اگر آپ کا سفر ۲۸ میل سے زیادہ کا ہے تو شہر کی حدود سے باہر جاتے ہی آپ شرعی مسافر ہو جائیں گے، اور ظہر، عصر اور عشاء کے وقت، بجائے چار رکعت کے دو دو رکعت فرض پڑھیں۔ البتہ اگر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز باجماعت ادا کریں تو پوری نماز ہی پڑھیں۔ ہاں اگر امام بھی مسافر ہو تو چار رکعت کے بجائے دو ہی رکعت ادا کریں۔ سنتوں اور نفل کا حکم یہ ہے کہ اگر اطمینان کا وقت ہے تو پوری پوری پڑھیں اور اگر جلدی ہو، یا تھکن ہے یا کوئی اور دشواری ہے تو بالکل نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں، البتہ وتر اور فجر کی منیق نہ چھوڑیں۔

۵۔ معمولی عذر کی وجہ سے فرض نماز جماعت کا ترک کرنا فتنہ

بعض حضرات یہ سمجھ کر کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا صرف سنت مذکور ہے، معمولی عذر کی وجہ سے فرض نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے بلکہ دوکان یا گھر میں اکٹے ہی پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ علماء کرام نے فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو جو سنت مذکور ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ معمولی عذر کی وجہ سے فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں کوتا ہی کی جائے، یونکہ فرض نماز کی شروعیت تو جماعت ہی کے ساتھ ادا کرتا ہے، صرف شرعی عذر کی وجہ سے جماعت کی نماز کا ترک کرنا جائز ہے۔ معمولی عذر کی وجہ سے جماعت کی نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے جیسا کہ صفحہ (۲۱) سے صفحہ (۳۷) تک قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا۔



چند ہدایات

(۱) وَاللَّذِينَ حَمَلُوا إِنَّمَا

ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات سے نمازوں کا اہتمام کر کے اپنی اولاد کی بھی نمازوں کی گمراہی کرے۔ جس طرح اولاد کی دنیاوی تعلیم اور ان کی دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کی دن رات فکر کی جاتی ہے اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کرنی چاہئے کہ وہ کس طرح جہنم کی آگ سے پچھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ ایمان والوں کی اس ذمہ داری کو قرآن و حدیث میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے، بعض آیات اور احادیث یہاں ذکر کی جا رہی ہیں:

☆ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آں سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنھیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجالاتے ہیں (سورہ اختریم آیت ۶)۔

☆ (اے محمد!) اپنے گھر کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمارہ (سورہ ط، آیت ۱۳۲)۔ اس خطاب میں ساری امت نبی اکرم ﷺ کے تالع ہے، یعنی ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتا رہے۔

☆ (حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا) اے میرے پالنے والے! مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد میں سے بھی (مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے) (سورہ ابراہیم، آیت ۲۰) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لئے بھی نماز کی پابندی کرنے کی دعا مانگی،

جس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی نماز کی فکر کرنی چاہئے۔
 ☆ (حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو تعلیم) اے میرے بیارے بیٹے! تو نماز قائم رکھنا۔
 (سورہ لقمان، آیت ۷۱)۔

☆ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سن: تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہارے ماتحت لوگوں کے سلسلہ میں باز پرس ہو گی.....مردا پسے الی و عیال کا ذمہ دار ہے۔ اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں باز پرس ہو گی.....(بخاری و مسلم)۔

☆ حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنے بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو۔ دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو۔ (ابوداؤد)۔

☆ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھا۔ شام میں حضور اکرم ﷺ تشریف لائے تو آپ نے دریافت کیا کہ لا کے نے نماز پڑھ لی، تو لوگوں نے کہا ہاں۔ (ابوداؤد)۔ غرض نبی اکرم ﷺ بچوں کی بھی نماز کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔

(۷) سرمایہ کاروں کے اتنے

جن حضرات کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات سے نماز کا اہتمام کر کے اپنے ملازمین کی بھی نماز کی فکر کریں، جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر کی حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر شخص سے اسکے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا۔
 سرمایہ کا ز نماز کا اہتمام کرنے والے ملازمین کے ساتھ اچھا بتاؤ کریں اور انھیں نماز پڑھنے کی کھل سہولت دیں۔ اور نماز میں کوتاہی کرنے والوں کو سمجھاتے رہیں تاکہ وہ بھی

نمازوں کی پابندی کر کے دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کرنے والے بن جائیں۔

۶۵) حکایت نمازوں کے انتہا

کھلنا صحت کے لئے مفید ہے جس کی شریعت نے بھی اجازت دی ہے مگر کھلے والوں سے درخواست ہے کہ وہ اذان کے وقت یا اس سے کچھ قبائل کھلی بند کر دیں تاکہ وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکیں۔ (بعض کھلی ملطیۃ ناجائز ہیں، علماء سے رجوع کریں) شریعتِ اسلامیہ نے ایسے کھلی کی بالکل اجازت نہیں دی ہے جو نماز کے ضائع ہونے حتیٰ کہ جماعت کی نماز کے فوت ہونے کا بھی سبب بنے۔ بلکہ ایسا کھلی تو آخرت میں دردناک عذاب کا سبب بنے گا، (اگر اللہ بزارک و تعالیٰ نے معاف نہیں فرمایا)۔

۶۶) حکایت نمازوں کے انتہا

بعض خواتین، گر کے مشاغل کی وجہ سے نماز کو مستحب وقت پر ادا کرنے میں کوتاہی کرتی ہیں۔ حالانکہ اگر تھوڑی ہی بھی فکر کر لیں تو نماز کو مستحب وقت پر ادا کرنا آسان ہو گا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں صفحہ (۱۹) پر گزرتا ہے نیز نماز کو شرعی عذر کے بغیر وقت پر ادا نہ کرنا نماز کو ضائع کرنا ہے جیسا کہ صفحہ (۹۲) پر ذکر کیا گیا۔ لہذا معمولی عذر کی وجہ سے نماز کو ادا کرنے میں تاخیر نہ کریں بلکہ اذان کے بعد فوراً ۶۔ اگر میں نماز پڑھ لیں۔

دوسری کوتاہی جو وہ ملن میں عموماً پائی جاتی ہے وہ نمازوں کو اطمینان، سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہ کرنا ہے، حالانکہ اصل نماز خشوع و خضوع والی نماز ہے جیسا کہ صفحہ (۲۳) سے صفحہ (۲۷) تک تفصیل سے لکھا گیا۔ لہذا نماز کو وقت پر اطمینان و سکون اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں، نیز جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اسکو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔

ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات سے نمازوں کا اہتمام کر کے اس بات کی کوشش اور فکر کرے کہ اس بات مسلم کا ہر ہر فرد نماز کی پابندی کرنے والا بن جائے۔ نیز خود بھی اللہ کے حکموں کو نبی اکرم ﷺ کے طریقہ پر بجالائے اور دوسروں کو بھی اچھائیوں کا حکم کرتا رہے اور ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتا رہے۔

اگر امت مسلمہ کا بڑا طبقہ واقعی نماز کا اہتمام کرنے والا بن جائے تو قرآن کریم کا اعلان ہے کہ معاشرے میں برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ ﴿نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے﴾ سورہ الحکیوم، آیت ۳۵۔

امر بالمعروف اور نبی عن انگر کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے جن میں سے چند آیات کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے:

☆ سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۴ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، ان کے چار اوصاف ہیں:

(۱) اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں (۲) نماز قائم کرتے ہیں (۳) زکاہ ادا کرتے ہیں (۴) اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہر مومن پر اللہ اور اسکے رسول کے اطاعت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکاہ ادا کرنا (اگر مال پر زکاہ فرض ہے) ضروری ہے اسی طرح اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا ہر ایمان والے کے لئے ضروری ہے، اگرچہ ہر شخص، حتیٰ استطاعت ہی امر بالمعروف اور نبی عن انگر کا ملکف ہے۔

☆ سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۲ میں اللہ تعالیٰ مؤمنین کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے (یا راہ حق میں سفر کرنے والے)، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کا حکم کرنے والے اور برے کاموں

سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے ہی مؤمنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔

☆ سورہ الحصر میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ تمام انسان خارے اور نقصان میں ہیں مگر وہ لوگ جو اپنے اندر چار صفات پیدا کر لیں (۱) ایمان لاائیں (۲) نیک اعمال کریں (۳) محض اپنی انفرادی اصلاح و فلاح پر قناعت نہ کریں بلکہ امت کے تمام افراد کی بھی کامیابی کی فکر کریں (۴) دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کریں۔

☆ تم بہترین امت ہو لوگوں کی نفع رسانی کے لئے تم کو پیدا کیا گیا ہے، اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لا تے ہو۔ (سورہ آل عمران، آیت ۱۱۰)

☆ اللہ تعالیٰ مؤمنین سے خطاب فرمایا کہ ارشاد فرماتا ہے: نیکی اور پہنچاگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو۔ (سورہ المائدۃ، آیت نمبر ۲)۔

☆ حضور اکرم ﷺ نے جنتۃ الوداع کے موقع پر ایک لاکھ سے زائد صحابہ کے مجمع کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا: حاضرین عائین تک میری بات کو پہنچاویں۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ حضور اکرم ﷺ کی وصیت پوری امت کو ہے۔ (صحیح بخاری۔ باب الحظۃ ایام منی) یعنی امت کے ہر ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے پیغام حق کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔

☆ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری ایک بات بھی اگر کسی کو پہنچے تو اُس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک اس بات کو پہنچائے۔ (بخاری - باب ما ذکرعن بنی اسرائیل)

اذان، وضو اور مسواک کے فضائل کا مختصر بیان

اذان:

- قیامت کے دن، اذان دینے والے سب سے زیادہ بھی گروں والے ہوں گے یعنی سب سے ممتاز نظر آئیں گے۔ (مسلم - باب فضل الاذان.....)
- موذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کروی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی آواز کو سنتے ہیں اُس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ (منhadar) مجمع الزوائد - باب فضل الاذان

- موذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور اُس سننے ہیں وہ سب قیامت کے دن موذن کے لئے گواہی دیں گے۔ (ابن خزیم) فتح احادیث صفحہ ۱۸۱
- جس نے بارہ سال اذان دی اس کیلئے جنت واجب ہو گئی (حاکم) (فتح احادیث صفحہ ۱۸۳)۔
- اذان دینے والوں کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا اور نہ انکو حساب دینا ہوگا، بلکہ وہ مشکل کے میلے پتفرج کریں گے۔ (ترمذی، طبرانی) مجمع الزوائد - باب فضل الاذان
- جو شخص اذان سننے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے تو اس کے لئے قیامت کے دن بھی اکرم ﷺ کی شفاعت واجب ہو گئی۔ (بخاری - باب الدعاء عند النداء)

وضو:

- جس نے اچھی طرح وضو کیا یعنی سنتوں اور آداب و مساحتات کا اہتمام کیا تو اس کے گناہ جنم سے کلک جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخون کے نیچے سے بھی کلک جاتے ہیں۔ (مسلم - باب خروج الخطايا.....)

- جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اس دوران کلی کرتا ہے تو اسکے منہ کے تمام گناہ دحل جاتے ہیں۔ جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے تمام گناہ دحل جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے تمام گناہ دحل جاتے ہیں یہاں تک کہ پلکوں کی جزوں سے بھی کلک جاتے ہیں۔ (نسائی - باب مسح الاذنین مع الراس)

- میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضویں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے..... (بخاری - باب فضل الوضو)

- مؤمن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچ گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے یعنی اعضا کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچ گا وہاں تک زیور پہنچایا جائیگا۔ (مسلم - باب تبلیغ الحلیہ)

- جو شخص مستحبات اور آداب کا اہتمام کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کرے پھر یہ پڑھے ﴿أَشْهُدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّهُمَّ اجْعُلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعُلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ تو اس کیلئے جنت کے آنھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ (مسلم - الذکر المحتب عقب الوضو)

- جو شخص وضو ہونے کے باوجود دوبارہ وضو کرتا ہے تو اسے دس نیکیاں ملتی ہیں۔ (ابوداؤد - باب الرجل مجدد الوضو) (وضاحت: علماء نے لکھا ہے کہ وضو کے باوجود نیا وضو کرنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے وضو سے کوئی عبادت کر لی ہو)۔

مواکب

- مساوک کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ (ترمذی - باب ما جاء في فضل الترويغ ...)

- مساوک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ (نسائی - الترغیب فی المساوک)

- مساوک کر کے دو رکعت نماز پڑھنا بغیر مساوک کے ستر رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔
(رواہ البزار، مجمع الزوائد - باب ما جاء في المساوک)

- جب بھی جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم ﷺ کے پاس تشریف لاتے، نبی اکرم ﷺ کو مساوک کرنے کی تاکید فرماتے..... (منhadîm) (شیخ احادیث صفحہ ۲۸۳)

- دن یارات میں جب بھی نبی اکرم ﷺ سوکرائختے تو وضو سے پہلے مساوک ضرور کرتے۔
(ابوداؤد - باب المساوک لِنْ قَامَ بِاللَّمْلَلِ)

- رسول اللہ ﷺ جب تجد کے لئے اٹھتے تو مساوک سے اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کرتے۔۔۔ رسول اللہ ﷺ گھر میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے مساوک کیا کرتے تھے۔ (مسلم - باب المساوک)

وضو کے فرائض: (وضو میں چار فرض ہیں، جن میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا)۔

(۱) پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچتک، اور دونوں کان کی لوٹک چہرا دھونا۔

(۲) دونوں ہاتھ کہنوں سمیت دھونا۔

(۳) چوتھائی سر کا مسح کرنا۔

(۴) دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔

وضو کی سنتیں: (سنت چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ثواب کم ملتا ہے)۔

(۱) نیت کرنا۔ (۲) شروع میں بِسْمِ اللَّهِ پڑھنا۔ (۳) پہلے تین بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ (۴) تین بار لکلی کرنا۔ (۵) مساوا کرنا۔ (۶) تین بار ناک میں پانی ڈالنا۔ (۷) تین بار چہرا دھونا۔ (۸) تین بار کہنوں سمیت دونوں بانہیں دھونا۔ (۹) سارے سر کا اور کافیں کا مسح کرنا۔ (۱۰) ڈاڑھی اور الٹلیاں کا خلال کرنا۔ (۱۱) لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا غوشہ کندہ ہو نے پائے کہ دوسرا غوشہ دھل جائے۔ (۱۲) ترتیب وار دھونا کہ پہلے چہرہ دھوئیں، پھر کہنوں سمیت ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں۔

وضو کے ستحات: (یعنی جن چیزوں کا کرنا، آپ کے لئے باعثِ ثواب ہے)۔

(۱) قبل درخ ہو کر بیٹھنا۔ (۲) پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ (۳) دافنی طرف سے شروع کرنا۔ (۴) دوسرے سے حتی الامکان مدد نہ لینا۔ (۵) بچا ہو پانی کھڑے ہو کر پینا۔

مکروہات و ضو: (یعنی جن امور سے آپ کو حتی الامکان بچنا چاہئے)۔

(۱) ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ (۲) سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ (۳) پانی زیادہ بہانا۔

(۴) وضو کرنے وقت دنیا کی باتیں کرنا۔ (۵) خلاف سنت وضو کرنا۔ (۶) زور سے چکپے مارنا۔

نوافض و ضو: (یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے)۔

(۱) پا گانہ یا پیشاب کرنا۔ (۲) ہوا خارج ہونا۔ (۳) بدن کے کسی حصہ سے خون یا پیپ نکل کر بہرہ جانا۔ (۴) منہ بھر کے قتے ہونا۔ (۵) نیک لگا کر یا لیٹ کر سوجانا۔ (۶) نشر میں مست یا بے ہوش ہو جانا۔ (۷) رکوع بجدہ والی نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا۔

غسل کے فرائض: (غسل میں تین فرض ہیں، جن میں سے اگر ایک بھی چوٹ جائے تو غسل نہیں ہوتا)۔

(۱) خوب حلق تک پانی سے منہ پر کر کی کرنا۔

(۲) ناک میں سانس کے ساتھ پانی پر چھانا جہاں تک زم جگہ ہے۔

(۳) تمام بدن پر ایک بار پانی بہانا کر بال پر اب بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔

غسل کی نیت: (ست چھوڑنے سے غسل تو ہو جاتا ہے مگر ثواب کم ملتا ہے)۔

(۱) دونوں ہاتھ گٹوں تک دعوٰۃ۔ (۲) ظاہری ناپاکی دور کرنا اور استخفا کرنا۔ (۳) غسل کی نیت کرنا۔ (۴) دوضو کرنا۔ (۵) بدن کو ملننا۔ (۶) سرے بدن پر تین بار پانی بہانا۔

غسل کے مکروہات: (یعنی جن امور سے آپ کو حق الامکان پختا چاہئے)۔

(۱) پانی بہت زیادہ استعمال کرنا۔ (۲) اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکیں۔

(۳) نیگا ہونے کی حالت میں غسل کرتے وقت کسی سے بات چیت کرنا۔ (۴) قبل وہو کر غسل کرنا۔

تیم کے فرائض: تیم میں تین فرض ہیں۔

(۱) نیت کرنا۔

(۲) دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر پورے چہرے پر پھیرنا۔

(۳) دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر کہیوں سیت دونوں ہاتھوں کو ملننا۔

تیم کا طریقہ:

بیماری اور پانی نہ طے کی صورت میں وضو کی جگہ تیم کر لینے کا حکم ہے۔ جنکا طریقہ یہ ہے کہ اول ناپاک دو رکنے کی نیت کریں۔ پھر پاک مٹی یا اسکی چیز پر جو مٹی کے حکم میں ہو، دونوں ہاتھ مار کر ایک بار اپنے چہرے پر پھیر لیں، پھر دوسرا مرتبہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھ کہیوں سیت لیں۔

نوٹ: کتاب کے پہلے ایڈیشن میں صرف نماز کی اہمیت، تاکید اور فضیلت تحریر کی گئی تھی،

مگر بعض احباب کے بار بار مطالبه پر کتاب کے اس دوسرے ایڈیشن میں قرآن و حدیث

کی روشنی میں فتحی حقی کے نقطہ نظر کے مطابق، وضو، غسل اور تیم کے ضروری مسائل،

نیز نماز کا مسنون طریقہ تحریر کر رہا ہوں۔

اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے، اور لوگوں کو اس سے نفع بخشے۔

یافجوں فہاروں کے اوقافت:

صح صادق سے سورج کے طاوع ہونے تک۔	نماز نجم:
زوالي آفتاب سے نمازِ عصر کا وقت شروع ہونے تک۔	نماز ظہر:
جب ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ کے علاوہ دوسری ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے۔	نماز عصر:
غروب آفتاب سے تقریباً ڈرہ گھنٹہ تک۔	نماز مغرب:
سورج چھپنے کے تقریباً ڈرہ گھنٹہ کے بعد سے صح صادق تک (آدمی رات کے بعد عشاء کی نماز کے لئے کروہ وقت شروع ہو جاتا ہے)۔	نماز عشاء:

یافجوں فہاروں کی روکھتی:

پہلے دو سنتیں، پھر دو فرض۔	نماز نجم کی چار رکعتیں:
پہلے چار سنتیں، پھر چار فرض، پھر دو سنتیں، پھر دو لفل۔	نماز ظہر کی بارہ رکعتیں:
پہلے چار سنتیں غیر موکدہ، پھر چار فرض۔	نماز عصر کی آٹھ رکعتیں:
پہلے تین فرض، پھر دو سنتیں، پھر دو لفل۔	نماز مغرب کی سات رکعتیں:
پہلے چار سنتیں غیر موکدہ، پھر چار فرض، پھر دو سنتیں، پھر دو لفل، پھر دو لفل، پھر تین وتر، اور دو لفل۔	نماز عشاء کی سترہ رکعتیں:

دن رات میں کل ۷۴ رکعتیں فرض، ۳ وتر، ۱۲ رکعتیں سنن موکدہ، ۸ رکعتیں سنن غیر موکدہ ہیں

مسئلہ: جمع کے دن ظہر کے وقت ظہر کی نماز کے بجائے نمازِ جمع (دو فرض امام کے ساتھ) ادا کی جائیگی۔ نمازِ جمع عورتوں پر فرض نہیں ہے لہذا وہ اس کی جگہ نمازِ ظہر ادا کریں۔

اگر کسی شخص نے جمع کی نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی تو اس کی جگہ نمازِ ظہر (چار رکعت) ادا کرے، ہال اگر مسافر ہو تو دو رکعت ظہر کی ادا کرے۔

نمازِ جمع کی ۱۲ رکعتیں اس طرح ہیں: پہلے آ سنتیں، پھر ۲ فرض، پھر ۲ سنتیں، پھر ۲ لفل۔

مسئلہ: لفل اور غیر موکدہ سنتوں کا حکم یہ ہے کہ پڑھنے پر بہت ثواب طے گا، اور نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں، البتہ سننِ موکدہ کو عذر کے بغیر نہیں چھوڑنا چاہئے کیونکہ احادیث میں ان کی خاص تاکید اور اہمیت وارد ہوئی ہے۔

نماز کے شرائط و فرائض اور واجبات

شرائط نماز:

- (۱) بدن کا پاک ہونا۔
- (۲) کپڑوں کا پاک ہونا۔
- (۳) ستر کا چھپانا۔ (مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک، اور عورتوں کو چہرہ، ہاتھوں اور قدموں کے علاوہ تمام بدن کا ڈھانکنا فرض ہے)
- (۴) نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا۔
- (۵) نماز کا وقت ہونا۔
- (۶) قبلہ کی طرف رخ کرنا۔
- (۷) نماز کی نیت کرنا۔

فرائض وارکان نماز:

- (۸) سمجھیر خریمه۔
- (۹) قیام لمحنی کھڑا ہوا۔
- (۱۰) قراءت سنتی ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں پڑھنا۔
- (۱۱) رکوع کرنا۔
- (۱۲) سجده کرنا۔
- (۱۳) قدهہ اخیرہ کرنا۔
- (۱۴) اپنے ارادہ سے نماز ختم کرنا۔

اگر ان شرائط اور فرائض میں سے کوئی ایک چیز بھی جان کریا بھول کر رہ جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔

واجبات نماز:

- (۱) الحمد پڑھنا۔
- (۲) الحمد کے ساتھ کوئی سورت طانا۔
- (۳) فرضوں کی جعلی دور کعت میں قراءت کرنا۔
- (۴) الحمد کو سورت سے پہلے پڑھنا۔
- (۵) رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا۔
- (۶) دلوں بجدوں کے درمیان پیٹھنا۔
- (۷) پہلا قدہ کرنا۔
- (۸) التحیات پڑھنا۔

- (۹) لفظ سلام سے نماز ختم کرنا۔
- (۱۰) ظہر اور عصر میں قراءت آہستہ پڑھنا۔
- (۱۱) امام کے لئے مغرب و عشاء کی چلی دور رکعتوں، اور فجر و جمود عیدین اور تراویح کی سب رکعتوں میں قراءت بلند آواز سے پڑھنا۔
- (۱۲) دعائے قنوت سے پہلے بکیر کہنا۔
- (۱۳) عیدیں میں چھڑا کنگ بکیر میں کہنا۔
- ان مذکورہ واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ کرو کرنا واجب ہوگا۔ اور قصد اچھوڑ دینے سے نمازو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔

نماز کی سنتیں

- یہ امور نماز میں سنت ہیں، جن کے ترک کرنے پر نماز تو ادا ہو جائیگی مگر ثواب میں کمی ہوگی۔
- (۱) تکمیل تحریم کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کا انوں تک اٹھانا اور عورتوں کو سینے تک اٹھانا۔
- (۲) مردوں کو ناف کے نیچے اور عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا۔
- (۳) شایخی سُبْحَانَ اللَّهِمَّ أَخْلَقْنَا
- (۴) اغُوذُ بِاللَّهِ (پوری) پڑھنا۔
- (۵) بِسْمِ اللَّهِ (پوری) پڑھنا۔
- (۶) ایک رکن سے دوسرے رکن کو نھل ہونے کے وقت اللذا کبر کہنا۔
- (۷) رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّ الْفَلَقِ کم از کم تین مرتبہ کہنا۔
- (۸) رکوع سے اٹھتے ہوئے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ اور زَيَّنَ لَكَ الْحَمْدَ کہنا۔
- (۹) سجدہ میں کم از کم تین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى کہنا۔
- (۱۰) دونوں سجدوں کے درمیان اور التحیات کے لئے مردوں کو باکیں پاؤں پر بیٹھنا اور سیدھا پاؤں کھڑا کرنا، اور عورتوں کو دونوں پاؤں سیدھی طرف تکال کر کھڑوں پر بیٹھنا۔
- (۱۱) درود شریف پڑھنا۔
- (۱۲) درود کے بعد دعا پڑھنا۔
- (۱۳) سلام کے وقت داکیں اور باکیں طرف منہ پھیرنا۔
- (۱۴) سلام میں فرشتوں، مقتنیوں اور نیک جنات جو حاضر ہیں ان کی نیت کرنا۔

نماز کے مستحبات:

- (۱) اگر چادر اوڑھے ہو تو کافیوں تک ہاتھ اٹھانے کے لئے مردوں کو چادر سے ہاتھ نکالنا۔
- (۲) جہاں تک ممکن ہو کھانی کو روکنا۔
- (۳) جمائی آئے تو منہ بند کر لینا۔
- (۴) کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ کی چگد اور رکوع میں قدموں پر اور سجدہ میں ناک پر اور قدرہ میں گود میں اور سلام کے وقت کامیزوں پر نظر رکھنا۔

کروہات نماز:

- یہ چیزیں نماز میں کروہ ہیں۔
- (۱) کپڑے اسینا۔
 - (۲) جسم پا کپڑے سے کھلانا۔
 - (۳) انکلیاں پٹھانا۔
 - (۴) داسکیں یا یا کیں طرف گردن موڑنا۔
 - (۵) انگڑائی لینا۔
 - (۶) مرد کو سجدہ میں کبھیوں سمیت کلائیاں زمین پر بچھانا۔
 - (۷) سجدے میں (مردوں کے لئے) پیٹ کو رانوں سے ملانا۔
 - (۸) پتیر و فر کے چاروں زانوں (پاقی مار کر) بیٹھنا۔
 - (۹) امام کا محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا۔
 - (۱۰) صفائی سے علیحدہ تھا کھڑا ہونا۔
 - (۱۱) سامنے پاس پر تصویر ہونا۔
 - (۱۲) تصویر والے کپڑوں میں نماز پڑھنا۔
 - (۱۳) کندھوں پر چادر یا کوئی کپڑا لکھنا۔
 - (۱۴) پیٹھاب یا پاخانہ یا زیادہ بھوک کا تقاضی ہوتے ہوئے نماز پڑھنا۔
 - (۱۵) سرخول کر نماز پڑھنا (یہ کراہت مردوں کے لئے ہے)۔
 - (۱۶) آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا۔

فہاز پڑھنے کا طریقہ

نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک کپڑے ہٹکن کر پاک جگہ پر باوضو قبل کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں قدموں کے درمیان چار انگلیاں اس کے قریب قرب فاصلہ رہے، اور نمازی نیت کر کے دونوں ہاتھ کا نوں کی لوٹک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ داہنہ ہاتھ اور بیاں ہاتھ اس کے نیچے رہے، اور نظر بجہ کی جگہ پر رکھیں۔

نماز میں اور حادثہ پڑھیں۔ ادب سے کھڑے رہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھیں۔ ہاتھ بامدھ کر شایعی شبخانَ اللَّهُمَّ آخْرِكِ پڑھیں۔ پھر تزویہ یعنی انگوڈ بِاللَّهِ مَن الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ اور پھر تسمیہ یعنی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں۔ الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آئیں کیں۔ پھر کوئی سورت یا چند آیات پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لئے بھیکیں، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھنٹوں کو پکڑ لیں۔ رکوع کی شیع یعنی شبخانَ رَبِّ الْغَظَيْمِ تین یا پانچ یا سات مرتبہ پڑھیں، پھر تسمیہ یعنی سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَه کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد تجدید یعنی زَيَّنَا لَكَ الْحَمْدُ پڑھیں، پھر بکیر کہتے ہوئے بجدے میں اس طرح جائیں کہ پہلے دونوں گھنٹے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں پر رکھیں پھر دونوں ہاتھوں کے نیچے میں پہلے ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھیں، پھر بجدے کی شیع یعنی شبخانَ رَبِّ الْأَغْلَمِ تین یا پانچ یا سات مرتبہ پڑھیں۔ پھر بکیر کہتے ہوئے اٹھ اور بیٹھ جائیں۔ پھر بکیر کہتے ہوئے دوسرے سجدہ میں جائیں اور اسی طرح سجدہ کریں جیسا ابھی بتایا، دونوں سجدوں تک ایک رکعت پوری ہو گئی۔

اب بکیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں، صرف بِسْمِ اللَّهِ پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورت یا چند آیات پڑھیں۔ پھر رکوع، قومہ اور دونوں بجدے کر کے بیٹھ جائیں، اور پہلے تہذیب یعنی التحیات پر بکیر کہہ کر دعا پڑھ کر سلام بکیر دیں، پہلے وہی طرف پھر بآئیں طرف۔ یہ دو رکعت نماز پوری ہو گئی۔

اگر تین یا چار رکعت والی نماز پڑھنی ہو تو دو رکعت پر بیٹھ کر صرف التحیات پڑھیں۔ اس کے بعد فوراً بکیر (یعنی اللہ اکبر) کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ بِسْمِ اللَّهِ اور الحمد شریف پڑھ کر رکوع و بجدے کریں۔ اگر تین رکعت پڑھنا ہو تو بیٹھ کر التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام بکیر دیں۔

اور اگر چار رکعت پڑھنا ہو تو تیسرا رکعت پڑھ کر نہ بیٹھیں بلکہ تیسرا رکعت کے دونوں سجدے کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور چوتھی رکعت یعنی بسم اللہ اور الحمد شریف پڑھ کر رکوع اور سجدے کر کے بیٹھ جائیں اور التحیات پڑھ دو شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیل دیں۔

مسئلہ: نفل نمازوں کی تیسرا اور چوتھی رکعت میں بھی الحمد شریف کے بعد کوئی سورت یا چند آیات پڑھیں کیونکہ فرض نمازوں کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت یا چند آیات پڑھنا واجب ہے۔

مسئلہ: اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو عکسیر حرمہ کے بعد شنا کے علاوہ پچھنہ پڑھیں۔ تعود، تسبیح، الحمد شریف اور سورت صرف امام پڑھے گا۔ اسی طرح دوسری، تیسرا اور چوتھی رکعت میں بھی امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہیں، ہال روک عسکریت کی تسبیح اور التحیات و درود شریف اور اس کے بعد والی دعا امام کے پیچھے بھی پڑھیں۔

مسئلہ: رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کراور سر برابر ہیں یعنی سرمنہ کر سے اوپنچار ہے نہ بیٹھا ہو جائے اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور گھنٹوں کو ہاتھوں کی انگلیاں سے پکڑ لیا جائے۔

مسئلہ: سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنج زمین پر اس طرح رہیں کہ انگلیاں پھیلی ہوئی اور آپس میں مٹی رہیں اور سب کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ اور کلائیاں زمین سے اوپر چری رہیں۔ پیٹھ رانوں سے اور دونوں کہیاں پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور دونوں پاؤں کی انگلیاں اس طرح مڑی رہیں کہ ان کے سر قبلہ رخ ہو جائیں۔ عورتوں کے لئے پیٹھ کورانوں سے اور بازوں کو بغل سے ملا کر رکھنا چاہیے۔

مسئلہ: رکوع سے اٹھتے وقت امام صرف سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَہ کہے اور جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو وہ صرف زَيَّنَ اللَّكَ الْحَمْدَ کہے، اور جو تمہار پڑھے وہ ان دونوں کو کہے۔

مسئلہ: دونوں سجدوں کے درمیان اور التحیات و درود شریف پڑھتے وقت مردوں کے لئے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں۔ دونوں گھنٹے قبلہ کی طرف رہیں۔ داسنے پاؤں کی انگلیاں اچھی طرح موڑ دیں کہ قبلہ رخ ہو جائیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھیں کہ انگلیاں سیدھی رہیں۔ اور عورتوں کو دونوں پاؤں دھنی طرف نکال کر بیٹھنا چاہیے۔

مصادر و مراجع

نمبر شمار	نام کتاب	نام مصنف	مطبع
۱	القرآن الكريم	مولا ناجمودا حسن صاحب	مجمع طک فہد، مدینہ منورہ
۲	ترجمہ شیخ الہند	مولا ناجمودا حسن عثمانی صاحب	مجمع طک فہد، مدینہ منورہ
۳	تفہیم عثمانی	اسعیل بن کثیر	امکنیۃ الحصریہ، بیروت
۴	تفہیم ان کشیر	احسین بن مسعود الفرام	دارالحیاء التراث العربی، بیروت
۵	تفہیم بخوی	محمد بن اساعیل البخاری	دار ابن کثیر، بیروت
۶	صحیح البخاری	مسلم بن جراح النسایی	دارالحیاء التراث العربی، بیروت
۷	صحیح مسلم	امام مالک بن انس	دارالحیاء التراث العربی، مصر
۸	موطأ امام مالک	محمد بن عثیمین البوقی	دارالحیاء التراث العربی، بیروت
۹	سنن ترمذی	سلیمان بن الاخفش ابو داؤد جستانی	دار الفکر، بیروت
۱۰	سنن ابو داود	ابو عبد الله محمد بن ماجہ	دار الفکر، بیروت
۱۱	سنن ابن ماجہ	احمد بن شیعیب ابو عبد الرحمن نسائی	مکتب مطبوعات اسلامیہ، سوریا
۱۲	سنن نسائی	امام محمد بن حنبل	موسسه ترقیبہ، مصر
۱۳	مسند احمد	علی بن عمر ابو الحسن دارقطنی	دارالعرفہ، بیروت
۱۴	سنن دارقطنی	محمد بن جبان بن احمد امینی	موسسه الرسالۃ، بیروت
۱۵	صحیح بن جبان	علی بن ابی بکر ابی حمی	دارالکتاب العربی، بیروت
۱۶	مجموع الزوائد	عبداللطیف عبد القوی المیدری	دارالكتب العلمیہ، بیروت
۱۷	الترغیب والترہیب	ابوزکریا سعیی بن شرف النووی	مکتبۃ العلم، دہلی
۱۸	ریاض الصالحین	شیخ موزہ زکریا	مکتبہ فیض عام، دہلی
۱۹	فضائل اعمال	شیخ محمد یوسف کامل حلوی	مکتبہ فیض عام، دہلی
۲۰	منتخب احادیث	مولانا عبدالگفور لکھنؤی	کتاب الصلاۃ
۲۱			

- ٢٢ كتاب الصلاة واحكامها علام ابن قيم
- ٢٣ نماز تهذيب صلواته شيخ محمد الياس
- ٢٤ نماز كحقيقة مولانا محمد مظفر رضا
- ٢٥ نماز كأصل انساً طلبيضاً مولانا نذر الحنف مير ثقي
- ٢٦ نماز (آيات او بنادي احكام) پروفيسور ناصر الدين ودانيش بيلكشيز علي مرتضى
- ٢٧ الصلاة في القرآن الكريم د. فهد بن عبد الرحمن الروي مطاب الفرزدق، الرياض
- ٢٨ الصلاة شيخ اسحاق سعيد الصاغري دار القبلة للثقافة الاسلامية، جده
- ٢٩ حكم تارك الصلاة شيخ محمد بن صالح العثيمين دار الوطن للنشر، الرياض
- ٣٠ كيف يتحققون في الصلاة د. رقيبة بنت محمد المحارب دار القاسم، الرياض
- ٣١ الاباهة عن اسباب الاعناة على د. رقيبة بنت محمد المحارب صلاة الغجر وقيام الليل
- ٣٢ مختصر قيام الليل شيخ محمد بن ناصر المرزوقي دار الوطن للنشر، الرياض
- ٣٣ لاماذا اصلني شيخ عبدالرحمن الحداوي دار الوطن للنشر، الرياض
- ٣٤ رسالة عاجلة الى جار المسجد شيخ محمد بن عبدالعزيز المسعدي دار الوطن للنشر، الرياض
- ٣٥ يا من فقدناه في المسجد شيخ محمد بن سرار بن علي اليامي دار الوطن للنشر، الرياض
- ٣٦ آرحا بالصلاوة شيخ عبدالقديم الحسجاني دار القاسم، الرياض
- ٣٧ احاديث وعظات في فضل شيخ عبد الله بن عبد الرحمن دار ابن خزيم، الرياض
- ٣٨ عظيم الاجر المخاطب على صلاة الغجر شيخ عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين دار الوطن للنشر، الرياض
- ٣٩ ارجو فضل فاكح تصلي شيخ عبد الملك القاسم دار القاسم، الرياض
- ٤٠ الصلاة الصلاة شيخ محمد بن صالح العثيمين دار الوطن للنشر، الرياض
- ٤١ يا اهلاده صلوا صلوا شيخ عبدالقديم الحسجاني دار القاسم، الرياض
- ٤٢ اياوكا والصلاوة شيخ عبد الملك القاسم دار القاسم، الرياض

قریبیم فائزہ مولا نا اسما علیل و پلیفیر سوسائٹی

سنجھل، اتر پوریش ریاست کا ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ مسلم حکمرانوں کے دور میں اس شہر کو ”سرکار سنجھل“ کہا اور لکھا جاتا تھا۔ اس تاریخی شہر میں بے شمار علماء، حدیثیین اور مشائخ پیدا ہوئے، چیز سینکڑوں اویسوں، شاعروں اور طبیبوں نے اسی میں جنم لیا۔ اسی سرزین سے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب سنجھل جیسے جاہد اٹھے جنھوں نے احادیث رسول ﷺ کی خدمات کے ساتھ، اپنی تحریر و تقریر سے برٹش حکومت کی ہدایادیں ہلانے میں ایک اہم روپ ادا کیا۔

ہندوستان کی تحریک آزادی میں مولانا نے نہایاں کارناٹے انجام دئے۔ حکومت وقت کے خلاف مولانا کی شعلہ بیان تقریروں نے سنجھل اور اطراف کے انگریزی افسران کو ہر وقت خوف زدہ رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا کو کوئی ہار صرف گرفتار ہی نہیں بلکہ ان پر بغاوت پھیلانے اور فساد پر پا کرنے کے مقدمات چلا کر کئی کئی سال کی خستہ سزا میں دی گئیں۔ مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں دوبار شاذار کامیابی سے مولانا کی عوایی مقبولیت کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مولانا ایک عرصہ تک جمیع العلماء ہند سے بھی وابستہ رہے۔ نیز کئی بڑے اداروں میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے تدریسی خدمات انجام دیں۔ آخری عمر میں تصنیف و تالیف کے کاموں میں مشغول ہو گئے، اردو میں تین کتابیں: مقامات تصوف، اخبار انتریل اور تقلید ائمہ تصنیف کیں۔

مولانا کی علمی شخصیت اور تحریک آزادی میں جاہدانہ کردار ہی میساں بات کا مقتضی رہا کہ اس تاریخی شہر میں مولانا کے نام سے کوئی علمی ادارہ قائم کیا جائے مگر افسوس کہ حکومتی اداروں کی اقیازی پالیسی اور کچھ ہماری غلطت نے یہ موقع فراہم نہیں کیا پھر بھی سنجھل کی علمی شخصیتوں کی طرف سے وقت فراغت ایسے کسی ادارے کے قیام کا احساس دلایا جاتا رہا۔ ”قریبیم فائزہ مولا نا اسما علیل و پلیفیر سوسائٹی“، اسی احساس کا نتیجہ ہے۔ اس سوسائٹی کا مقصد سنجھل میں مستقل ایک علمی ادارہ کا قیام ہے اس ٹھمن میں ہورائزون پلک اسکول کے نام سے ایک عصری تعلیم کا ادارہ قائم کیا جا چکا ہے۔ نیز دنیٰ تعلیمی ادارہ کی پیش رفت جاری ہے۔

ایسے تمام علمی افراد جو کسی ٹھنڈی میں دینی، تعلیمی ادبی اور اصلاحی کاموں میں مشغول ہیں کا تعاون ہمارے لئے حوصلہ بخش ہو گا۔ اللہ اس تعالیٰ اس عمل خیر کو قبول فرمائے۔


محمد نجیب سنجھل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سن: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ جب بندہ کہتا ہے (الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں (میرے بندے نے میری خوبی بیان کی)۔ جب بندہ کہتا ہے (الرَّحْمٰنُ الرَّّجِيمُ) تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں (میرے بندے نے میری تعریف کی)۔ جب بندہ کہتا ہے (مَا لِكَ يَقْرِئُ الدِّيْنَ) تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں (میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی)۔ جب بندہ کہتا ہے (إِيَّاكَ نَسْأَبُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں (یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے) یعنی عبادت کرنا میرے لئے ہے اور مدد و مانگنا بندے کی ضرورت ہے۔ اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے دیا جائے گا

* * *

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمَّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلى الله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة، إلا بتى الله له بيته في الجنة (رواه مسلم - باب فضل السنن الرابعة قبل الفرائض وبعدهن وبين عدهن).

حضرت ام حبیبة رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سن: جس شخص نے دن رات میں بارہ رکعتیں پڑھیں جو کہ فرض نہیں ہیں، اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنادیا گیا۔





ناشر: فریدم فائزہ مولانا اسماعیل سنبھلی ویلفئر سوسائٹی، سنبھل